

#### THROUGH PUCARS & COURIER

October 5, 2023

The Deputy General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi- 74000

## SUBJECT: NOTICE OF 60<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir.

Please find attached a copy of Notice of 60<sup>th</sup> Annual General Meeting of M/s. Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited ("Company") to be held on Thursday, October 26, 2023, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the exchange.

HAND RUBBER COMPANY

NAME OF THE PROPERTY OF T

Yours sincerely,

**Hussain Kuli Khan** Chief Executive Officer

Hum Kl. KL



(Formerly known as The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Limited)





## **GHANDHARA TYRE & RUBBER COMPANY LIMITED**

## NOTICE OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 60th Annual General Meeting ("AGM") of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (hereinafter 7. referred to as the "Company") will be held on Thursday, October 26, 2023 at 11.00 a.m. at Beach Luxury Hotel, M. T, Khan Road, Lalazar Karachi, physically and through electronic means

Instructions with regard to participation would appear in the notes below. While convening the AGM, the Company will observe the quorum a 8.

provisions and will comply with all the regulatory requirements.

The AGM is being held to transact the following business: **ORDINARY BUSINESS** 

To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2023, together 9. with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

To appoint statutory auditors of the Company for the year ending 30 June 2024 and fix their remuneration. The Board of Directors has recommended M/s. Shinewing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants, to be re-appointed as statutory auditors at a fee to be mutually agreed and reimbursement of out of pocket expenses at actuals. M/s. Shinewing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants have provided their consent to be re-appointed as statutory auditors for the financial year 2024. **SPECIAL BUSINESS** 

To alter the following Articles of Association:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company, with modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors: Article 2. INTERPRETATION:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time. Article 121. SPECIAL POWERS:

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the Interests of the Company and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper. Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up / issung the Bonus Shares, Shares or Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the Company rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may make cash payments for the fractional Bonus Shares, Shares or Certificates to any holders of Shares on the footing of the value so fixed as may seem just and expedient to the Directors.

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment, as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit. Article 155, CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto If distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such resolution.

Transmission of Annual Report Including Notice of General Meetings: To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders through email or QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.

389(I)/2023 dated March 21, 2023: "RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Annual Audited Financial Statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future."

To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at the AGM.

The information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the AGM being

By Order of the Board nous pursonaim resistment to a trivete of beginns are embledered to Dussell Million (Chief Executive Officer

Karachi: October 5, 2023 NOTES:

3.

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 19, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Transfers received in order at our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B. Block- B. S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi at the close of business on October 18, 2023 shall be treated in time for the purpose of AGM. No transfer will be accepted for registration during this period.

Participation in the AGM via Physical Presence or through Video Conferencing: Members whose names are appearing in the Register of Members as of October 19, 2023, are entitled to attend and vote at the AGM A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/ her.

An instrument of proxy applicable for the AGM is being provided with the Notice sent to the Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: www.gtr.com.pk. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through email at khawer@gentipak.com or courier on Company's Registered Address, H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi, not less than forty-eight (48) hours before the time of AGM, excluding public holidays.

The AGM is being conducted as per guidelines circulated by SECP, following arrangements have also been made by the Company to facilitate maximum participation of the shareholders in the AGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies: The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at Email: cdcsr@cdcsrsl.com at the earliest but not later than close of business on October 24, 2023.

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company	CNIC Number	Folio / CDC A/c No.	Email ID	Mobile Phone No.	
Rate of the state of the	Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited	ieus plasticos Production	green (1988). They are the first control to the treatment of the	มหลังการสาราสติสาราช (ค.ศ.) เกราะ (ค.ศ.) (ค.ศ.) (ค.ศ.)	in in the state of the section of th	10
Please note that vid	leo link and login credent	ials will be shared	with only those members/	designated proxies v	vhose e-mail and othe	r

required information are received in required time as mentioned above. Video-link for the AGM will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the AGM on the given

Login facility will be opened thirty (30) minutes before the AGM time to enable the participants to join the AGM after the identification

process. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days

before the AGM, at the given email address khawer@gentipak.com. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC No. and Folio/ CDC Account No. for this purpose. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"). For Attending AGM

In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/ her identity by showing their CNIC at the time of attending the AGM.

In case of a corporate entity, a Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of AGM.

For Appointing Proxy In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.

b) and Attested copies of CNiC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce this original ONIC at the time of AGM.

Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form: The SECP vide its letter no. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The shareholders of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service

Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS The shareholders are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through

Notification dated December 05, 2022, issued by the SECP, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business Accordingly, the shareholders of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its AGM to be held on Thursday, October 26, 2023 at 11.00 a.m., in accordance with the requirements

and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.gtr.com.pk for the purpose of being downloaded.

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders of the Company who have their valid CNIC

numbers, cell numbers, and e- mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of

The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

Identity of the shareholders intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or

E-Voting lines will start from October 20, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 25, 2023 at 5:00 p.m. Shareholders can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he / she shall not be allowed to change it,

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC should reach the Company

Secretary through post on the Company's registered address H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi or email at khawer@gentipak.com one day before the AGM on October 25, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on the CNIC.

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker/ CDC Investor Account Services for shares held in electronic form. **Unclaimed Dividends and Bonus Shares:** 

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block- B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi to collect/ enquire about their unclaimed dividends and/ or bonus shares, if any. E-Dividend Mandate

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their International Bank Account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block- B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience.

Miscellaneous: For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on "Filer/ Non-Filer" status of the principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of the principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Share Registrar, in writing as follow

Lan Language	ra Africa.	<u> </u>	Principle	Shareholder	Joint Sha	reholder
Company Name	Folio/CDC Account No.	Total Shares	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)
Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited				ini - vir geldar . ini - vir geldar	ng siking san Lisaksiyan il	

NOTE: In the event of non-receipt of the information by October 19, 2023, each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares

For any query/problem/information, the investors may contact the Company and/or the Share Registrar at the following phone numbers **Contact Persons:** Hussain Kuli Khan

CDC Share Registrar Services Limited Chief Executive Officer CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Ghandhara Tyre & Rubber Main Shahra-e-Faisal, Karachi Company Limited 021-111-111-500 021-111-487-487 92-21-321-8200864 khawer@gentipak.com

cdcsr@cdcsrsl.com Shareholders who could not collect their dividend /physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire/about their unclaimed dividend or shares, if any. Through this notice, the shareholders are intimated to contact with the Company for any unclaimed dividend/ shares within a period of

having unclaimed dividends/ shares are available on the Company's website www.gtr.com.pk. STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE

seven days after publishing this notice to meet the compliance of SECP Direction #: 16 of 2017 dated 07 July 2017. List of Shareholders

**HELD ON THURSDAY OCTOBER 26, 2023** SPECIAL BUSINESS Agenda Item 3 - To alter the following Articles of Association:

Proposed Article

Article 2. INTERPRETATION:

may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section

183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits

of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or

to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or

any other special funds to meet contingencies or to repay. Certificates or for special Dividends or for equalizing Dividends, or for issuing

bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining

any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as

the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the

interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such

nvestments as they may think fit, and from time to time to deal with

and vary such investments and dispose of and extend all or any part

thereof for the benefit of the Company in such manner and for such

purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive

to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or

any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys

of the Company might rightly be applied or expended and to divide the

reserve fund into such special funds as the Directors may think fit,

and to employ the assets constituting all or any of the above funds,

including the depreciation funds, in the business of the Company or

in the purchase or repayment of Certificates and that without being

bound to keep the same separate from the other assets and without

being bound to pay interest on the same, with power, however, to the

Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution

that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided

profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund

or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or

Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up

issung the Bonus Shares, Shares or Certificates of the Compan and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares of

Certificates or Debenture to the shareholders of the Company

rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any

difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle

the same as they think expedient and, in particular, may make cash payments for the fractional Bonus Shares, Shares or Certificates to

any holders of Shares on the footing of the value so fixed as may

interest at such rates as the Directors may think proper.

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

seem just and expedient to the Directors.

declared that the Directors shall have the following powers:

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and

other conferred by these Articles but subject to such limitations as

Article 2. INTERPRETATION:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time. Article 121. SPECIAL POWERS: Article 121. SPECIAL POWERS: Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as

may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends or for repairing improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments (other than Shares of the Company) as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above

funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

The Company in General Meeting may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company, and that any such sum or sums be set free for distribution and be appropriated to and amongst the Members, either with or without deduction for income tax, ratably according to their shareholding in such manner as

the resolution may direct, provided that no such distribution shall be made unless recommended by the Directors and the Directors shall, in accordance with such resolution, apply such sum or sums in paying up Shares or Certificates of the Company and appropriate such Shares or Certificates or Debenture to distribute the same amongst the holders of such Shares rateably according to their shareholding thereof respectively as aforesaid, or otherwise deal with such sums as directed by such resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may issue fractional Certificates, fix the value for distribution of any fully held Shares or Certificates, make cash payment to any holders of Shares on the footing of the value so fixed in order to adjust rights, and vest any Shares or assets in trusts for the persons entitled in the appropriation or distribution as may seem just and expedient to the Directors. When deemed requisite, a

contract in Writing shall be filed in accordance with the provisions of the Act and the Directors may appoint any person to sign such contract on behalf of the persons entitled in the appropriation or distribution, and such appointment shall be effective, and the contract may provide for the acceptance by such holders of the Shares to be allotted to them respectively in satisfaction of their claims in respect

Article 143. RESERVE FUND: The Directors may, before recommending any Dividend, set aside

out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be nvested in such investment (other than Shares of the Company) as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit.

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS The Company in general meeting may upon the recommendation of

of the sum so capitalised

the Directors resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full un-issued Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, said, and the Directors shall give effect to such resolution.

Article 143. RESERVE FUND:

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit.

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed.

credited as fully paid up to and amongst such Members in the

proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

resolution.

Further as per requirements of the S.R.O 423(I)/2018, a confirmatory statement by the Board of Directors have been reproduced below: CONFIRMATORY STATEMENT

The Board of Directors of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") confirms that it has amended the relevant clause of Memorandum and Articles of Association of the Company in-line with the applicable provisions of law and the regulatory framework. The Board also confirms that the amendments in the Memorandum and Articles of Association will not be detrimental to the interest of the Company

> Hussain Kuli Khan Chief Executive Officer

Agenda Item 4 - Transmission of Annual Audited Account through QR Code and Weblink The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21,

2023 to circulate the Annual Audited Financial Statements to their Members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email address in case it has been provided by the member to the Company, and upon demand, supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's Website i.e. www.gtr.com.pk.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid resolution except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

**Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited** POSTAL BALLOT PAPER

for yoting through post for the Special Business at the Annual General Meeting ("AGM") to be held on Thursday, October 26, 2023 11.00 a.m. at the Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi Phone: 021 35080172 (10 Lines) Website: www.gtr.com.pk Folio / CDS Account Number Name of Shareholder / Proxy Holder Registered Address Number of shares held CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached) Additional Information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, or federal Government) Name of Authorized Signatory

CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached) Resolution for Agenda Item No. 3

To after the following Articles of Association:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company, with modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time.

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers: (34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining any

of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to of upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds intereat such rates as the Directors may think proper.

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE: The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up / issuing the Bonus Shares, Shares or Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the Company rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such surns as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may make cash payments for the fractional Bonus Shares, Shares or Certificates to any holders of Shares or the footing of the value so fixed as may seem just and expedient to the Directors.

Article 143, RESERVE FUND:

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as serve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, elither be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit.

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such resolution.

Transmission of Annual Report Including Notice of General Meetings: To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report,

"BESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O.No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Annual Audited Financial Statements to the members through QR-enabled code and weblink instead of transmitti Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future."

directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders through email or QR-enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakietan via S.R.O No. 389(I)/2023 dated

Instructions for Poll 1. Please indicate your vote by ticking ( > ) the relevant box. 2. In case both the boxes are marked as ( ✓ ), your poll shall be treated as "Rejected". I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (>) mark in the appropriate box below; Resolution I/We assent to the I/We dissent to the Resolution (FOR) Resolution (AGAINST) Resolution for Agenda Item No. 3

Resolution for Agenda Item No. 4 Duly filled ballot paper should be sent to the Company Secretary, H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi or email at khawer@gentipak.com Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

Ballot paper should reach the Company Secretary within business hours by or before Wednesday, October 25, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting. Signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner). Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.

accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.gtr.com.pk. Shareholders may download the Ballo Paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper form must be accompanied by

a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)



## **GHANDHARA TYRE & RUBBER COMPANY LIMITED**

### NOTICE OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 60th Annual General Meeting ("AGM") of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (hereinafter referred to as the "Company") will be held on Thursday, October 26, 2023 at 11.00 a.m. at Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Lalazar, Karachi, physically and through electronic means.

Instructions with regard to participation would appear in the notes below. While convening the AGM, the Company will observe the quorum 8, provisions and will comply with all the regulatory requirements.

The AGM is being held to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS** To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2023, together 9.

with the Reports of the Directors and Auditors thereon. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending 30 June 2024 and fix their remuneration. The Board of Directors has recommended M/s. Shinewing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants, to be re-appointed as statutory auditors at a fee to be mutually agreed and reimbursement of out of pocket expenses at actuals. M/s. Shinewing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants have provided their consent to be re-appointed as statutory auditors for the financial year 2024. **SPECIAL BUSINESS** 

To alter the following Articles of Association:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company, with modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time. Article 121. SPECIAL POWERS:

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers:

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which they Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may think proper. Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up / issung the Bonus Shares, Shares or Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the Company rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may make cash payments for the fractional Bonus Shares, Shares or Certificate to any holders of Shares on the footing of the value so fixed as may seem just and expedient to the Directors.

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit. Article 155, CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto If distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such resolution. Transmission of Annual Report including Notice of General Meetings:

directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders ough email or OR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Eychange ( 389(I)/2023 dated March 21, 2023; "RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023

To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report,

transmission of Annual Audited Financial Statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future." Any other Business

To transact with the permission of the Chair any other business which may be transacted at the AGM.

The information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the AGM being

By Order of the Board حصرتها ومروحه والأمامين أوجران والعراقيات الانتجاب والمتارية والمتاريخ Hussain Kuli Khan Rarachii October 5, 2023 

NOTES: 1. Closure of Share Transfer Books:

For Attending AGM

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 19, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Transfers received in order at our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi at the close of business on October 18, 2023 shall be treated in time for the purpose of AGM. No transfer will be accepted for registration during this period.

Participation in the AGM via Physical Presence or through Video Conferencing: Members whose names are appearing in the Register of Members as of October 19, 2023, are entitled to attend and vote at the AGM A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/ her. An instrument of proxy applicable for the AGM is being provided with the Notice sent to the Members. Further copies of the instrument

of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: www.qtr.com.pk. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through email at khawer@gentipak.com or courier on Company's Registered Address, H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi, not less than forty-eight (48) hours before the time of AGM, excluding public holidays. The AGM is being conducted as per guidelines circulated by SECP, following arrangements have also been made by the Company to

facilitate maximum participation of the shareholders in the AGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies: The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at Email: cdcsr@cdcsrsl.com at the earliest but not later than close of business on October 24, 2023.

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company Company	CNIC Number	Folio / CDC A/c No.	Email ID	Mobile Phone No.
	Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited				
Please note that vid	eo link and login credent	ials will be shared	with only those members/ o	designated proxies v	vhose e-mail and other

required information are received in required time as mentioned above.

Video-link for the AGM will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the AGM on the given Login facility will be opened thirty (30) minutes before the AGM time to enable the participants to join the AGM after the identification

process. Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days

before the AGM, at the given email address khawer@gentipak.com. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC No. and Folio/ CDC Account No. for this purpose. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders: CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January

In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of his/ her identity by showing their CNIC at the time of attending the AGM.

26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").

In case of a corporate entity, a Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of AGM.

For Appointing Proxy In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.

Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of AGM.

Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form: The SECP vide its letter no. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions

of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form. The shareholders of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS The shareholders are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the SECP, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, the shareholders of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its AGM to be held on Thursday. October 26, 2023 at 11.00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the shareholders, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.gtr.com.pk for the purpose of being downloaded.

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those shareholders of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e- mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of

The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

Identity of the shareholders intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or

authentication for login. E-Voting lines-will start from October 20, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 25, 2023 at 5:00 p.m. Shareholders can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted, he / she shall not be allowed to change it,

The shareholders shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC should reach the Company Secretary through post on the Company's registered address H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi or email at khawer@gentipak.com one day before the AGM on October 25, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper

Requirement to incorporate email address and cell number:

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker/ CDC Investor Account Services for shares held in electronic form. Unclaimed Dividends and Bonus Shares:

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block- B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi to collect/ enquire about their unclaimed dividends and/ or bonus shares. if any.

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their International Bank Account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Falsal, Karachi. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience.

For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on "Filer/ Non-Filer" status of the principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of the principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Share Registrar, in writing as follows:

Principle Shareholder Joint Shareholder Folio/CDC Total Name and Shareholding Shareholding Company Name and Account No. Shares CNIC No. Proportion CNIC No. Proportion (No. of Shares) (No. of Shares) Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited

NOTE: In the event of non-receipt of the information by October 19, 2023, each shareholder will be assumed to have equal proportion For any query/problem/information, the investors may contact the Company and/or the Share Registrar at the following phone numbers

Hussain Kuli Khan

Company Limited

021-111-487-487

Article 2. INTERPRETATION:

Article 121. SPECIAL POWERS:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the

holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as

per the provisions of the Act, these Articles and the rules and

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and

other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section

183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly

(34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits

of the Company sums, as they may think proper, for depreciation o

to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or

any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates

or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing

bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining

any of the property of the Company and for such other purposes

(including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as

the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the

interests of the Company, and to invest the several sums so set aside

or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with

and vary such investments and dispose of and extend all or any par

thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive

to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to

which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys

of the Company might rightly be applied or expended and to divide the

reserve fund into such special funds as the Directors may think fit.

and to employ the assets constituting all or any of the above funds,

including the depreciation funds, in the business of the Company or

in the purchase or repayment of Certificates and that without being

bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the

Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds.

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution

that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided

profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund

or in the hands of the Company and available for Dividend, or any

sum received by way of premium on the issue of any Shares or

Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up/

issung the Bonus Shares, Shares or Certificates of the Company

and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates or Debenture to the shareholders of the Company

rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise

deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle

the same as they think expedient and, in particular, may make cash

payments for the fractional Bonus Shares. Shares or Certificates to any holders of Shares on the footing of the value so fixed as may

interest at such rates as the Directors may think proper,

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

seem just and expedient to the Directors.

declared that the Directors shall have the following powers:

regulations issued under the Act from time to time.

Chief Executive Officer

Ghandhara Tyre & Rubber

khawer@gentipak.com

villigin:

**Contact Persons CDC Share Registrar Services Limited** CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S.,

Main Shahra-e-Faisal, Karachi 021-111-111-500 92-21-321-8200864

cdcsr@cdcsrsl.com

Shareholders who could not collect their dividend /physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. Through this notice, the shareholders are intimated to contact with the Company for any unclaimed dividend/ shares within a period of seven days after publishing this notice to meet the compliance of SECP Direction #: 16 of 2017 dated 07 July 2017. List of Shareholders

having unclaimed dividends/ shares are available on the Company's website www.gtr.com.pk. STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE

**HELD ON THURSDAY OCTOBER 26, 2023** SPECIAL BUSINESS

Agenda Item 3 - To alter the following Articles of Association: Proposed Article

Article 2. INTERPRETATION: (21) "Dividend" includes a bonus.

Article 121. SPECIAL POWERS:

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly

declared that the Directors shall have the following powers: (34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Company sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Directors may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments (other than Shares of the Company) as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest at such rates as the Directors may thin

Article 142. CAPITALISATION OF RESERVE:

The Company in General Meeting may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premiur on the issue of any Shares or Certificates of the Company, and that any such sum or sums be set free for distribution and be appropriated to and amongst the Members, either with or without deduction for income tax, ratably according to their shareholding in such manner as the resolution may direct, provided that no such distribution shall be made unless recommended by the Directors and the Directors shall. in accordance with such resolution, apply such sum or sums in paying up Shares or Certificates of the Company and appropriate such Shares or Certificates or Debenture to distribute the same amongst the holders of such Shares rateably according to their shareholding thereof respectively as aforesaid, or otherwise deal with such sums as directed by such resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may issue fractional Certificates, fix the value for distribution of any fully held Shares or Certificates, make cash payment to any holders of Shares on the footing of the value so fixed in order to adjust rights, and vest any Shares or assets in trusts for the persons entitled in the appropriation or distribution as may seem just and expedient to the Directors. When deemed requisite, a contract in Writing shall be filed in accordance with the provisions of the Act and the Directors may appoint any person to sign such contract on behalf of the persons entitled in the appropriation or distribution, and such appointment shall be effective, and the contract may provide for the acceptance by such holders of the Shares to be allotted to them respectively in satisfaction of their claims in respect of the sum so capitalised

Article 143. RESERVE FUND:

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment (other than Shares of the Company) as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS

The Company in general meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up in full un-issued Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, said, and the Directors shall give effect to such resolution.

Article 143. RESERVE FUND:

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit.

Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paving up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special resolutions except in their capacity as Shareholders Further as per requirements of the S.R.O 423(f)/2018, a confirmatory statement by the Board of Directors have been reproduced below:

CONFIRMATORY STATEMENT The Board of Directors of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited (the "Company") confirms that it has amended the relevant clauses

of Memorandum and Articles of Association of the Company in-line with the applicable provisions of law and the regulatory framework. The Board also confirms that the amendments in the Memorandum and Articles of Association will not be detrimental to the interest of the Company

Hussain Kuli Khan Chief Executive Officer

Agenda Item 4 - Transmission of Annual Audited Account through QR Code and Weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed listed Companies, through its S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 to circulate the Annual Audited Financial Statements to their Members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email address in case it has been provided by the member to the Gompany, and upon demand, supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form, which may be obtained from the Company's Website i.e. www.qtr.com.pk.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid resolution except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

#### **Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited** POSTAL BALLOT PAPER

11.00 a.m. at the Beach Luxury Hotel, Off; M.T. Khan Road, Karachi Phone: 021 35080172 (10 Lines) Website: www.gtr.com.pk Folio / CDS Account Number Name of Shareholder / Proxy Holder Registered Address

Number of shares held CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)

Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, or federal Government) Name of Authorized Signatory

CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)

Resolution for Agenda Item No. 3 To alter the following Articles of Association:

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions to alter the provisions of articles of association of the Company, with modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors:

(21) "Dividend" means the dividend payable, in cash or kind, to the holder of Shares of the Company out of the profits of the Company as per the provisions of the Act, these Articles and the rules and regulations issued under the Act from time to time.

Without prejudice to the general powers conferred by Article 120 and other conferred by these Articles but subject to such limitations as may be imposed by the Applicable Law and, in particular, Section 183, or by the Members in General Meeting, it is hereby expressly

declared that the Directors shall have the following powers: (34) To set aside before recommending any Dividend out of the profits of the Cempany sums, as they may think proper, for depreciation or to a depreciation fund, reserve fund or sinking fund, obsolescence or any other special funds to meet contingencies or to repay Certificates or for special Dividends or for equalising Dividends, or for issuing bonus Shares or for repairing, improving, extending and maintaining any of the property of the Company and for such other purposes (Including the purposes referred to in the preceding sub-Article) as the Director may, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, and to invest the several sums so set aside or so much thereof as are required to be invested upon such investments as they may think fit, and from time to time to deal with and vary such investments and dispose of and extend all or any part thereof for the benefit of the Company in such manner and for such purposes as the Directors, in their absolute discretion, think conducive to the interests of the Company, notwithstanding that, matters to which the Directors apply or upon which they expend the same or any part thereof, may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and to divide the reserve fund into such special funds as the Directors may think fit, and to employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation funds, in the business of the Company or in the purchase or repayment of Certificates and that without being bound to keep the same separate from the other assets and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors, at their discretion, to pay or allow to the credit of such funds interest

at such rates as the Directors may think proper. Article 142, CAPITALISATION OF RESERVE:

The Directors may at any time and from time to time pass a resolution that it is expedient to capitalise any sum forming part of the undivided profits standing to the credit of the Company's reserve or reserve fund or in the hands of the Company and available for Dividend, or any sum received by way of premium on the issue of any Shares or Certificates of the Company apply such sum or sums in paying up / issuing the Bonus Shares, Shares or Certificates of the Company and appropriate / distribute such Bonus Shares, Shares or Certificates of Debenture to the shareholders of the Company rateably according to their shareholding in the Company, or otherwise deal with such sums as resolved in the said resolution. Where any difficulty arises in respect of such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient and, in particular, may make cash payments for the fractional Bonus Shares, Shares or Certificates to any holders of Shares or the footing of the value so fixed as may seem just and expedient to the Directors.

## Article 143. RESERVE FUND:

The Directors may, before recommending any Dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a eserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for meeting contingencies, or for equalizing Dividends, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Directors may, subject to the provisions of the Act, from time to time, think fit. Article 155. CAPITALIZATION OF PROFITS

The Directors may, from time to time, resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount/profits for the time being standing to

the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the Financial Statement or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution among the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of Dividend and in the same proportions, on condition that the same be not paid in cash but be applied in or towards paying up the Bonus Shares or Debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the

proportion, aforesaid, and the Company shall give effect to such resolution. Resolution for Agenda Item No. 4 Transmission of Annual Report Including Notice of General Meetings: To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report,

directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notice of general meetings etc. to the Company's shareholders through email or QR-enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No. 389(I)/2023 date "RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No.389(I)/2023 dated March 21, 2023 transmission of Annual Audited Financial Statements to the members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting the

Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB, be and is hereby ratified and approved for future." Instructions for Poll

 Please indicate your vote by ticking ( ) the relevant box. In case both the boxes are marked as ( ✓ ), your poll shall be treated as "Rejected"

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick ( ) mark in the appropriate box below; Resolution I/We assent to the Resolution (FOR) Resolution (AGAINST) Resolution for Agenda Item No. 3 Resolution for Agenda Item No. 4

Duly filled ballot paper should be sent to the Company Secretary, H-23/2, Landhi Industrial Trading Estate, Landhi, Karachi or email at khawer@gentipak.com Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

Ballot paper should reach the Company Secretary within business hours by or before Wednesday, October 25, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.

Signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner). Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in

accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.gtr.com.pk. Shareholders may download the Ballot Paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date .

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)

## PUBLICATION OF NOTICE OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING DATED 5 OCTOBER 2023 IN DAILY "NAWA-I-WAQT", LAHORE.

		چے کندھاراتانوری
A STATE OF THE PROPERTY OF THE		
THE STATE OF THE SEASON	ے عام کا نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ	60 ويسى سىلاندىك الكراك مى المسكالاندىك المسكالاندىك المسكالاندىك المسكالاندىك المسكالاندىك المسكال المسكل
آرمگیلی <b>2 تشریخا:</b> (21)" دو پیششه ایا مطلب بیدا یک کی دفعات کے مطابق کمٹن کے منافع میں سے کمبنی کے حصی یافت گان کو آر فیکلز روز کر سرم جی میں آڈو قبال ایک کر مدفوان مرتبر سال مرتبر سال کو کا جرش میں مقابل ادارا کی دا مرفوط شد	آرئل 2 گرئ. (12) "الإيلا" عن المسائل الم الله عند الله الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل	سهانی طور میرا در الکیار اعلی نه در الکی سے منطق بوگا حربی شری در ری فرا کی کار دوائی بیخ مل دورا میروکا:
درا یک کے تحق وقاف وقاباری کردہ قواعد و خواج کے تحق فقد یا کی جی خم میں مقامل ادا یکی او بدی فقد - اگر مگل 121 محمومی افتیارات: آر مگل 120 کے در لیے عطا کردہ عموی افتیارات اور ان آر مگلز کے ذریعے عطا کردہ دیکر افتیارات کے ساتھ بلا	آرتیل 121 خمرمی احتیارات: آرتیل 120 کردر میده طالرده موی اختیارات ادران آرتیکل کردر میلی احتیارات سیسماتید با انصب کی تا جم	وه در الديال من كريس في الريال من كريس في الريال من كريس في أرتاء غذ كريس وي الريال من كريس في المن وي المنظم والمنظم
تعصب تاہم ایسی حدود کے ساتھ جو قائل اطلاق قانون اور بالخصوص بیکٹن 183ء یا اجلاس عام شرم میران کی جانب سے عائد کی جائمتی ہیں، اس کا واقع طور پراهان کیا جاتا ہے۔ کہ دائر کیٹرز کو درجانا فیل اعتمارات حاصل ہون گے:	ا میں صدود کے ساتھ جو قائل اطلاق قانون اور خاص طور پرسکٹن 183 میا اجلاس عام عمی میران کی جانب سے عائمہ کی جانستی ہیں، اس کا واضح طور پر اعلان کیا جا تا ہے ، کہا ڈارٹیکٹرز کو درج ڈیل افتیارات عاصل ہوں گے:	آؤيزد كور ريتر ركا جائه وراص كاروبارى كاروبارى كاروائى كافزاجات كاواء تكوي جائي المرشاك ويك عيدج مردى ايدا لهن واردواكا كالمتاس في مالى مال 2024 كيك المتانول آؤيز كرا محالة المتارون
(34) کیٹی کی رقدم سے منافع میں سے کمی بھی و بدیئہ کی سفارش کرنے سے پہلے جیسا کو دو مناسب مجیس فرمودگی ا کے لیے افرمودگی کے فنٹر ، رپر روفنڈ یا سنگل فنز ، متر وک بیابٹگا کی طالب سے شف کے لیے کی دومر سے ضعومی فنڈ کو انگ کر نایار مینکلیٹس کی ادا منگل کے لیے بیاضعومی و بدیئر شک کے لیے اوابو یڈ پڑکر زار کرنے تھے کیے با پایش شیز زجاری	فرمودگی کے فقد ، ریزوند یا سنگ فقد متروک یا سی و در سے ضوعی فقد کو بنگای حالات سے نیٹ کیلیے الگ کرنایا مرتقابش ک اور تکل اضومی و دید فذر کیلے اور بدیڈ کر را برکرنے کیلئے یا کہنی کی کم می زیارٹی کا مرحت ، بہتری اوسیع اور برقرار کیے	ن کاروائی: آر فظراتا قدایدی ایش سے درج ویل مضایین بھی ترمیم: کہنی کے آر نظراتا قد ایسیوی ایشن کی دفعات بیش ترمیم ، اصاب فی باحد قد، جیسا کہ بود و آف فی افزیکٹر فر نے تجویز کیا ہے، کوضوسی قرار دادوں پرخوروشش ادرا کرموزوں سجھا جاسے تو منظوری:
کرنے کے لیے اکمٹنی کی کس بھی جائیداد کی مرمت، بہتری، توسیق اور برقر ارر کھے کیلیا اور اس طرح کے دیگر مقاصد کیلیا (بشول وہ مقاصد بنری) در کوچھلا و بیار دکیلی میں کیا گیا ہے) جیسا کہ دائر کیمٹرزہ اپنی مکس موابد بدیش، میٹن کے	کے لیے اور اس طرن کے دیگر مقاصد کیلئے (جشول کرفشد و کی آرٹیل میں ذکر دمقاصد) جیسا کرڈ انزیکٹرز و اپنی مکس صواب ید میں کمین کے مفادات کے لیے ساز کا رتھنے میں وادر بہت می رقع می سرمانیکاری کرنے کیلئے اس قدر الگ دمی جات ہے بیاس	آر مگیل.2 تھرتے: (21) او پیچ پیز اس کا مقسمہ ہے، ان آر کیکڑ اورا کیک ہے تھت وقنا فو قنا جاری کر دوقو اعدو ضوالیا کے مطابق کمپنی کے مصاب کے معالی کمپنی کے صعب کے حال افراد کونفٹا یا دوسری صورت بھی قابل اوا کیکی منافع مصسب ہے۔
مفادات کے لیے سازگار تھتے ہیں، اور آق رقم کی سر ماریکاری کرنے کے لیے جواس طرح الگ رکی گئی ہویاس ش سے آق زیادہ سر ماریکاری کی جائے جو کہ دو ملاسب جمیس، اور وقافو آقاس طرح کی سر ماریکاری سے شمث اور اس ش فرق کر ما اور کھنی کے فائد سے کئے اس کے تمام یا کسی بھی حصے کو تعرف اور فوسیق فریفا اور ایسے متنا صدیکیلئے جیسے	کی ماتی ہے جینا کروہ مناسب جمین ، اور وقا فو ٹا اپنی سر ماید کاری کی تیل اور اس بین فرق کرنا اور کمپنی کے فائد سے کیلیے اس	7 <b>رئیلی 121</b> خصومی افقیارات: 7 رئیل 120 کے ذریعے مطاکر دوعوی افتیارات اوران آرئیلز کے ذریعے مطالعے تھے دیگر افتیارات کے ساتھ تھوتا کی حدود کے ساتھ بھوتائل اطلاق قانون اور فاص طور پر پیکٹش 183 میا بنزل بیٹنگ بیٹ میران کی طرف سے عائد کی جانکن جیں اس کا دائع طرز پر اطلان کیا جا تا ہے کہ ڈائز کیکر زکورس ڈیل افتیارات حاصل ہوں گے:
ڈ اگر کیٹرز را چی مکمل صوابد بدیش ، مکنی کے مفادات کیلئے ساز گار بھتے ہیں اس کے باوجود، وو مطالمات بس پرڈ اگر کیٹرز الا گوہرتے ہیں یا بس پر دوری ترجی کرتے ہیں بااس کا کوئی صدر دو مطالمات ہو تکتے ہیں یا جس پر کیٹن کے سریائے کا	موابدید کے مطابق کمینی کے مفاوات کیلئے موزوں جھیں کئی باد جودا سے کہ دہ معاملات جن پر ڈائریکٹرز لا کو بوتے بیل یاجن پردہ ای بیاس کا کوئی حد خرج کرتے ہیں، وہ معاملات ہو سکتے ہیں جن پر کیٹنی سکیٹن کر کمینی فرقم کو بیاطور پر لاکو پاخری کیاجا سکتا ہے اللہ	(34) کینی کی رق م کے مناق میں سے محلی او پیڈنڈ ک سازش کرنے ہے ہیا کہ وہ مناب سبجیس بذمود کی کے لیے اور مود کی کے فقد مریز واقعافی سات کے منافع میں است کے منافع میں است کے منافع میں است کے منافع میں است کے منافع میں منافع کے اور کا منافع کی اور کا منافع کے اور کا منافع کے اور کا منافع کے اور کا منافع کے اور کا منافع کی اور کیا کے کہا کے اور کا منافع کے اور کا منافع کے اور کا منافع کی اور کا منافع کے اور کا منافع کے اور کا منافع کی اور کا منافع کی اور کا منافع کے اور کا منافع کی اور کا منافع کے اور کا منافع کی کا منافع کا منافع کا منافع کا منافع کی کا منافع کا منافع کا منافع کا منافع کا منافع کا کا منافع کا مناف
طور پر اطاق بوسکا ہے یا ترج کیا گیا اور دیر دوند کوا ہے ضوعی انداز میں تشیم کرنا جو فائز کیکر زمنا سب جمین اور سمینی کے کا دوار میں قرمودگی کے نشز اسب شکورہ بالا تام یا کی بھی فٹز اور ششر آنا فافوں کو طاؤمت دینا پر شکلیٹس کی تر بداری یا اوا تکی میں اور ہے کہ اے دیگر افاقوں سے الگ رکھنے کے پابند کے نظیر اور اس پرمودادا کرنے کے پابند	ا واليكي مين اور دو الغير سي يابند كي فذكره والا فقد زبشول فرسودكي كے فند زمين سے تمام ياسي ايک پرهشمل الا تول كواستعمال	مقاصد) جیدا کو اگر بیٹرزدا فی طلق صوابد پریش، کپنی کے مفاوات کیلیے سازگارسوی سکتے ہیں، اورائق آئم کی سرباریکاری کرسکتے ہیں یاس میں سے اتنی زیادہ وقم کی سرباریکاری کرسکتے ہیں ہوکہ دو مناسب جھیں، اوروقت سے اس طرح ک سرباریکاری سے شیل ادراس میں فرق کرنے اور کپنی کے مفاول ہو ہے ہیں ہوں ہوں اور کہ کہ مقاوات کے مفاول ہو بھی، کہنی کے مفاول ہو کہ ہوری کے اور کہنی کے اور کہنی کے اور کر دوران کا کوئی وصفری کرتے ہیں، دو معاملات ہو سکتے ہیں بازی کی کہنی کے کہنی کے مفاول ہو کہا جا ممالیات ہو کہنی کے کہنی کے کہنی کے کہنی کے کہنی کے اور کر دوران کی کہنی کے مفاول ہوری کے اور کہنی کے اور کر دوران کی کہنی کے کہنی کی کرنے کر کر کر کر کر کر کر اس کر
كي نغير، طاقت كرماته، متابم، والزيكر ذكوران كل موادر بدير، الن طرح ك فنز زك مود كركر يدث كوايك شرحول ير اداكر في إاجازت دين ك يلي جو فائز كمرفرد ماسب مجيس.	ان کی صوابدید یر اینے فٹر زیمے مود کی اوا بازت دیدے کے لیے اس طرح کی شرحوں پر دائز کیشر و مناسب یکھتے ہیں۔ او	ئے بیے موروں سوچے ہیں، اس کے باوجوں وہ مطاطب میں پر والز بسرار اوجو ہے ہیں ہائی ہیں کہ وہ اس کے بیان وہ مطاطب ہوتے ہیں ہائی ہیں۔ اپنے منہ بی فذر میں تشکیر میں ہیں کہ اور کہ میں اس بھیس، اور میکن کے کاروبار میں یا مربئے کیشش کی تو بدار انگی شرن اور کیس کا کیس کے این کے بادر کیے کا باشت دیں میں کا کیس کی کیس کے کہا تھا تھا کہ مالا اور کیسٹرول کی مواج یہ برا کے کیا جدار کے کیا جدار میں اور کیس کی کیس کے اس کی کیس کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے کیا جدار کیا وہ بار میں یا دیس کی اور کیس کی انسان کی بیان کے کہا تھا کہ میں اور کیس کی کا بیان میں وہ کی اجاز میں وہ کی کہا تھا تھا کہ میں اس کے بیان کے بیان کیس کی کیس کے بیان کیس کو کرد کیس کی کا بیان میں کیس کی کا بیان میں کیس کو کہ کیس کے بیان کیس کی کیس کیس کیس کیس کی کا میں کہ کیس کی کا کہ کیس کی کہا تھا کہ کیس کے بیان کیس کیس کیس کی کہا تھا کہ کیس کی کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہ کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہ کہ کہ کہا تھا کہ
آرتیل 142 دیزد ماکا سرامیکا دی: وائر یکرز کو یکی وقت اوروقا فر آقایک قرارواد پاس کرسکتے بین کدیٹن کے دیزود یاریز دوفت یا کینی کے ہاتھ میں موجود غیر قصم منافع کا حصد بنتے والی کی مجی آم کو مرابیکا دی کرنا مناسب ہے اور فاج فیز کیلئے ومتیاب ہور یا کینی	مسمینی اجلاس عام بین سمی مجمی وقت اور وقا فو قالی قرار دادمنظور کرستی به کرمینی کے ریز رو کے کریڈے پرموجو وغیر منقسمہ	آرمگل .142ریزدوگی مرماییکاری: وابر کیفرز کی بھی وقت اوروقا فر آنا کیک تر ارد پاس کرسکتے ہیں کہ کپنی کے در بردویا در بردونڈ یا کپنی کے ہاتھ میں اور ویو پیٹھ کے لیے دستیاب فیرطنع مسافع کا حصہ بننے والی کی بھی رقم کا مرباید بھانا مناسب ہے یا کپنی کے کی بھی تھسمی باسر کے کہا فیکلیٹ کے اجراد پر زرفتا ون کے در بدرموس ہونے والی کو کئی بھر کرم کپنی کے بوٹس تھسمی برسکتیٹ کی اور نگی کرکھ کپنی کے کشیشر
سی می صص یا موقایت سے اجراء کیلے پر پیم سے ذریعے موسول ہونے والی کوئی بی رقم مینی کے بوٹس صعی جسمی یا مرشکیش کی اوا گڑا کم بادی کرنے میں ای رقم یا رقوم کا اطلاق کرتی ہے اور ان طرح تے بوٹس صعبی جسمی یا موقایت	کہنی کے میں صصی یا رٹیکلیٹس کے اجراء کیلئے رہیم کے ذریعے موسول ہونے والی کوئی رقم ادریکرائی کوئی بھی رقم یا رقع تقسیم کیلئے ہا سادھ رقعی یا نمیں ادر میران کیلئے ادران کے دوئیان انوکیشن کی تو تی ساتھ یا اس کے اپنے مثل کی جا	فیکیٹ کے اجراء پر ذریقادن کے ذریعہ رموس اور نے دائی اولیا ہی اس مسلم بیسٹ میں اس سیست کی ادار میسین کا داریک ہی وولڈ در کو بھی میں ان سے میئر جوادث کے سرطالبن مناسب آنتیم کریں، یا بسورت دیگر خاورہ قر ادادہ میں میں میشر میں وومناہ سے بچھتے میں ادرعاش طور پر مقررہ قیت کے مطابق تصف سے کم بھی والمد در کو بڑوی وائی میس میں اس میلیک سے کے
یا دینی کرکونی سے شیئر مولار زکو کپنی بین ان سے شیئر مولا تک سے مطابق مناسب تقسیم کرنا، یا بصورت دیگر ایکی رقوم کا	کشیز برازی کے مطابق اس طریقے ہے جس طرح قرار دادگی ہانے کی جائے ، بشرطید ایک کوئی تنتیم شیود بنایا جائے جب یا کئی کہ ڈائز بیکٹرزی طرف ہے سافارش ند کی جائے اور ڈائز بیکٹرز ، اس قرار داد کے مطابق جسم کی ادا بیکی بین الدی آم بار آدہ کا	آرنگل 143. پر دون : وارز کیان و پر فرق ک ساز ترکرنے سے سلم کین کے مناخ بن سے ایس دو کہ اور کا کہ کرکتے ہیں جورہ منا سے مجس ابلور زیر دوبرہ فائر کیٹرز کی مزاہدیدیں بیٹا کی طال سے کو پورا کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کے لیے بیا والیے پڑھ کو پر اور کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرن
ڈ اگریٹرز دق کل کرستانے ہیں جیسا کہ دوہ مناسب محص ہیں اورخاس طور یہ ہیت فاجا دیا کی طرح سطر رہا گیا ہے۔ جیسا کر ڈاکر مکٹرز کے لیے مور وں اور مناسب محص مصص سے کئی کھی جولڈرڈ کو کڑ ڈی ایون تقصی بھنسی یا خوکلیٹ کیلئونقدادا میک کرستان ہیں۔	ا امال کریں کے اس میں موسولیت اور سامت ہیے ان یا حوست یو مہر ویک کا سامت میں مان کا استعمال کا استحمال کا استعمال کا استحمال کا است	لاگر ہول، یا کی دورے مقصد کے لیے جس کے لیٹے کہنی کے منافع کا تھی طور پر اطلاق کیا جا سکتا ہے، اوراس طرح کی ورخواست زیرالتواہ ہوگئی ہے، ای طرح کی صوابدیدیں، یا تو سکتنی کے کاروبار میں طاقر مرسا ہے کا میں ہے۔ سر ایکاری کی جائتی ہے جب اگر ڈائر کیٹرز ، ایک کی دفعات، وقبافو قابم ساسب جملی جائی ہیں۔۔ آرکیل 155 منافع کی سرما ہے کا دی:
e e l'investigation de la company de la comp	چیں آتی ہے، ڈائر میکرزوق علی کر سے بیں جیدا کروہ مناسب بھتے بیں اور خاص طور یہ یز دی خیکیف جاری کر سے بیں کی ا بھی من طور پرموجود وصعمی ارتیکیش کی آتیے ہے کہ رقین کر سے بیں جعن سے کہ کی بولادر دو تو آب اولیے جسٹ کرنے	ڈائر مکٹرز ، وزنا فو قاریہ طے کرتھے ہیں کہ چن کے کہ بھی ریز روا کا ونٹس یٹٹرنٹ کے کریڈٹ کیلئے ڈتی طور پرموجو وقر آمان نئے کے کہ بھی مصکا سربایہ گانا پابسورے دیگر دستا ہے۔ بنتیم، اوراس کے مطابق البھی دائم محران میں سیم کیلئے مذہ رکھی جائے جواس کے حقدار ووں کے اگر ڈو پیڈیٹر کے ذریعے اوراس تا مب شرعہ کے جائے مان مراس کے بھیا ہے۔
A Francisco de Carlos de C	کیلیے اس قدر طے شدہ قدر کی بنیاد پر نقد اوا بھی کریں، اور کی بھی تھیں یا اٹائے کو ان لوگوں کیلے ٹرسٹ میں رجیس جوا بھیا گا تعتبم کے حقد ان بوں جیسا کہ ڈائر کیلیٹے مناسب اور مناسب مجیس، جب مفرودی مجھا جائے تو تو ٹرین طور پر ایک منابدہ ایک کی وفعات کے مطابق وائر کیا جائے گا اور ڈائر کیلٹرز کئی بھی تھی کو ان طرح کے معاہدے پر متنظ کرنے کیلئے ان افراد ک	بلن شیئر زیاد پیچر ز ، ذکوره بالاتناسب شن ایسے مبران کیکمل طور پرادا کیے جانے کے طور پر کریڈٹ کیا اور کمپنی اس طرح کی قرار داد کو با فذکر سے گا۔ - سالاندر فورٹ بھٹر اجامل عام سے کوشش کارتھیل: سالان پیکشس بٹیسے کی ترسل ،منام اور فقصان کے اکا ذف میں آڈ بیٹرز کی رپورٹ ڈائر کی کر پورٹ (" آڈٹ شندہ سالانہ مالیاتی بیانات") اور مکپنی کے شیئر بولڈرز کو ای کمیل یا QR فعال کوڈا اور دیب لنگ کے دریاجے جز ل میڈنگٹر و مجرد کا کوئش
The state magnetic section production of the section of the sectio	ا بیدی و وجات کے مطابی و اس با جانے داور در استرار کا بی کانوان کر سے محام کے یہ مدد بہت ہے ہیں اور اس جانب سے مقر کر سکتا ہیں جوانحشاس یا تشعیم کے حقار ہیں، اور ان طرح کی انقر دی مؤثر ہوگی، اور مطابعہ ان اس طرح ک کے جانگین کی منظوری کیلئے جوانجین بالتر تب الات کے جائے کیلے ان کے دائوں کے اطرفیان کیلئے اس طرح کی سرماید کاری	جيها كه SRO نمر(ا)389مال2023 مودند 21 مارچ 2023 كيزر لين كيمكور شيرا يلزاه جيجج كييش آف پاكستان نے اجازت دى ہے، كيلئة ايك عموی قراد ادا يہ 3092 كيزر الله عليه عليه الله الله يك 2023 كيزر الله الله يك 2023 كيزر ليا 2026 كيزر ليا 2026 كيزر ليا 2026 كيزر ليا كامل 2023 كيزر ليا 2026 كيزر ليا 2026 كيزر ليا 2026 كيزر ليا 2026 كيزر كي 2026 كيزر كي 2026 كيزر كي 2026 كيزر كي 2026 كيزر كيزر كي 2026 كيزر كيزر كي 2026 كيزر كيزر كي 2026 كيزر كيزر كيزر كيزر كيزر كيزر كيزر كيزر
آرتکل 143ریز روفتہ: وائز کیٹرز کری کا دایش کر نے کے لیا کئی کے منافع میں سے ایک رقع کو الگ کر سکتے ہیں جودہ مناب		اوروپ الک کے دریے مجبر ان کو سالات آف شدہ حسابات کی ترسل کی تو تمثل اور مستقم نے لیے متعود کی دی جاتی ہے۔'' کلیکارروائی: بچہ میمبر کی اجازت ہے کن دیگر کاروبار کی AGM میں انجام دہی کی جائتی ہے۔
سجیس بطور دیرد یا ذخارجو، دائر میروزی موابدیدی، با مالات کو بودا کرنے کیلئے یا ویویلی تو کو برابر کرنے کیلئے الاکو بول برایکی دوسرے متعد کیلئے جس کیلئے کمپنی کے منافع کا کلی طور پراطلاق کیا جاسکتا بودا دوسال طرح کی دوخوا	مناسب مجمین یا دخار جود از میکرز کی صوابد بدیرین بنگای طالات کو پورا کرنے ، یا دیویڈ عزکو برابر کرنے کے کیلئے الا محبول میا کی ا وزمرے مقد کیلئے میں کیلئے مجنفی کے منافع کا مجمع طور پراطلاق مون اور اس طرح کی ورخواست زیرالتوا و اس مورای طرح کی ا	کینیزا یک 2017 سیکشن (3) 134 کیتحت مطلوبه معلومات شیئر بوراندرزگو AGM کیزش سیکه ما تصفراتهم کی جارتای جین - جنگهم بورط
زیرانوا در موتی ہے الی موادید پر باتو کمپنی کاروارش فادمت کی جانگتی ہے الی سرماید کارٹی ش سرماید کارک کی جائمتی ہے جیسا کر دائر کیٹرز دو قافو آتا کیک کی دفعات کے مطابق مناسب جمیس -	صوابدید به یا تو تمنی کاروبارش طازمت یا اسی سر مایدکاری (ماحات مجنی عضم ) می سرمایدکاری کی جانے جیسا کر وَانزیکرو، وَقَا فَوْ قَالَا یک کی دفعات کے مطابق مناسب جیس -	ي 2023م المراجعة الم
رقم /منافع کے لئی بھی جھے کا سرمایہ کاری یا بصورت دیگر تھیم کیلتے وستیاب ہے اور اس کے مطابق ایک رقم ممبران میں	مینی اجلاس عام بین دُ الرِیکِشُرز کا سفارش پرید فیعلد کرسکتی ہے کہ مینی کا بین دروا کا ویشس سے کریڈٹ کیلیے دقع طور پر رقم کے کئی بھی مصریحہ ماریکا دی کرنا شروری ہے امالیاتی صباب کے کریڈٹ پریافتیم کیلیے بصورت دیگر دستا ہے۔	ے:  - شیئروالٹرکتے کا بیزائر: کمپنی سے شیئر واشفر کھا ہے 191کٹور 2023 (دولوں ایام ٹال میں ) تک AGM کے مقعد کیلئے بندر میں کے۔ حارثے شیئر دھٹوار بھر دی ڈکی کی ٹیئر دھٹوا دمرومز کی بیٹل کا 190- کی بیٹل کے لیے
التيم كيك بلامعاو فرزكى جائ جوائ محتقدار بول مح اگرة يو يلفظ كرد يليداورا كا تاسب بين تشيم كيد جائي، استرو بركراس كي اواين التي نقد بني دركي جائية م اس كا اطلاق اداينكي بني ياداديكي كي اجائي الاشادر	اوراس کے مطابق الی رقم ان مجران میں تقدیم کیلئے با معاوضہ رکئی جائے جواس کے حقد اربوں ، اگر او پر فیظ کے ورسے اورای عامب میں تقدیم کے جا میں ، اس شرط پر کہا ہے نقد اوار کیا جائے تا ہم الاے اور تقدیم کے جائے والے کہنی سے تمل فیرجاری	الیں ایج کی ایج الیں، ٹین شاہراہ فیعل، کراچی میں 18 اکٹور 2023 و کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والے فرانسٹر کو سالا نہ اجلائ عام میں شرکت کے مقصد کیلیے بروقت بقسور کے جا عمل مجے اس مدت کے دوران رجھ میستان کے لیے کوئی منتقل قبل نہیں کا جائے گی۔
عمل طور برا دا كيه جائے كطور بركر يُرث كيا جائے كا اور كائى اس طرح كى قرار دادكونا فذكر ك	شہ چھنسی اڈ ٹنٹیز دکی اوا ٹنٹی کیلیے درخواست دی جائے گی ، قدگورہ بالا تناسب شی اس طرح کے ادا کیس کواوران کے با ٹین ممل اوا گئی کے طور پر کریڈ کیا جائے گا ، اورڈ اور کیسٹر زائی تر ادا داد کو افذ کریں گے۔ کمپٹی کے کم بھی ڈائز کیٹر کی ڈکور قصوص تحر اروادوں میں ما سوائے اس کے کہ دہ مجنی کے شیئر موافد دریا ڈائز کیٹرز کی حیثیت کو کی ڈائی ویٹر	ے۔ AGM شیرجسانی مرجود کی واڈی پوکانوٹسک کے دریے چڑکت: در کبر ان جن کے تام 19 اکتور 2023 کو کبران کے رجنوش موجود ہیں، دو AGM شین ٹرکت اور دوٹ دریے کا حکام کی دری کو میں میں میں میں میں میں کہ میں میں میں کہتے ہوئے ہیں کہ میں میں کہتے ہوئے ہیں۔ AGM میں ٹرکت کرتے ہوئے کہ اور دوٹ دریے کا بیار پاکی مقرر کرنے کا الل ہے۔ کہا کہ ایک کے ایک کا کید دخاو دیرارا کیں کو چینے کے واٹس کے ساتھ فراہم کیا جار باہے۔ پراکس کے دخاوج کا میں کہتے ہے کہ اللہ میں کہ چینے کے واٹس کے ساتھ فراہم کیا جار باہے۔ پراکس کے دخاوج کی میں میں کہتے کے دخاوج کی میں میں کہتے کے دخاوج کی میں کہتے کے دخاوج کی کرنے کا اللہ کی دخاوج کی کرنے کی میں کہتے کے دخاوج کی کہتے کہ دخاوج کی کرنے کی دخاوج کی کہتے کہ کہتے کہتے کہتے کہتے کہ دخاوج کی کہتے کہتے کہتے کہتے کہتے کہ کہتے کہتے ک
:- \( \frac{1}{2} \)	حزید بران S.R.O نبر S.R.O (1)/2018 کے تقاضوں کے مطابق ، پورڈ آف ڈائز کیکٹر ڈ کاایک تصدیح تی بیان مندرجہ ڈیل می تصدیقی جات	ے ماصل کی جانتی ہیں۔ پر اک بادم ٹین کی ویب سائٹ <u>بسبب میں</u>
آر بیگزاتند. ایسوی ایشن کی متعلقه شقول بیس قانون کی لا گوشتون اور رنگه کیفری فریجاد درگ بیشمطال آن تراهیم کی می دلهین مول گا- هسین قل خان	محند مدارا نا ترایند رو مینی المیند (" کینی") کے دور آف دائر کیشرزاس بات کی اقعد بن کرتے میں کدائیوں نے کہنی کی معمود شراد را آف بات کی مجی اقعد بنی کرتا ہے کہ میموریزم اور آرفیلو آف ایسوی ایشن میں تراہم کینی یا مجموعی طور پر اس سے ارا کمین - است کی مجی اقعد بنی کرتا ہے کہ میموریزم اور آرفیلو آف ایسوی ایشن میں تراہم کینی یا مجموعی طور پر اس سے ادا ک	جی ی جانب سے سالانہ اجلاس کا متعاد SECP کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مطابق کی جانب سے معالی کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مطابق کا مصابق کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مطابق کا مصابق کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مطابق کا مصابق کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مطابق کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مطابق کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مطابق کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مصابق کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے مطابق کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کی جانب سے جاری کردہ ہمایات کے جانب سے جاری کردہ ہمایات کے حالی کے مطابق کی جانب سے جانب سے جاری کردہ ہمایات کے حالی کے حالی کردہ ہمایات کے جانب سے جانب سے جاری کردہ ہمایات کے حالیات کے حالیات کے حالی کردہ ہمایات کے حالیات کی جاری کے حالیات کے ح
چف گریخیرا فیر	ا بين الآم 4- كية ركوا ورويب لك كدر الير مالات أو فرهوا كالوث كي ترسل	ویڈیولنگ کے ذریعے حصہ لینے میں پنجیسی ریخیسی ریخیسی کتے والے شیئر بولڈورزے دوخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم <u>cdesr@cdesrsl.com پر جلداز جلد کی</u> کا کا کا کا پیرورز کی ہولڈورکا پورانام کی جولڈورکا پر انجام کی جولڈورکا پر انداز کی جولڈورکا کی جولڈورکا پر انداز کی جولڈورکا پر انداز کی جولڈورکا کی جولڈ
ول کوای میل ایڈریس کے ذریعے گردش کرے کی اگر بیمبر کی جانب سے مپنی کوفرا ہم کردی گئے ہے،اورمطالبہ کرنے پر بھتھ	سمگو دیٹرواینز انتیجی کیٹن آف یا کمتنان نے اسپر S.R.O غمبر 389(1)/2023 کورند 21 ماری 2023 کے درسیے لیاؤ کمپنیوں کوسالا کے در سیجہ اسپنی کمبران کوسالانہ آؤید شدہ مالیاتی کوشواروں کی ترتب کی کا بازے دی ہے کمپنی کے سالانہ آؤید شدہ مالیاتی کوشواروں یافشکان کوسالانہ آؤید شدہ مالی بیانا سے کہا ہوئی کا بیان مکم کم اور خواست فارم کی وصولی پڑا معاوند فراہم کرسے گی ، جو کمپنی کی اند	براہ کرم نوے کریں کہ دیئے بولنگ اورا گسان کیا۔ ماد میرف ان کم برون کا معمول کے مساتھ تیسکر کی جا میں کی جن کیا گیا تک اور دیم مطلوبات مشررہ وقت میں موصول ہوئی میں تاکیا ہوری ہے۔ د) اجاما یں کیر لیس کم ان کون کے انہم کر دوا کی میل چوں بر کیجا جائے گئا کہ کہ دود کی گئا تا کہ دود کی گئا تریخ اور دفت مراجا کی میش کرسک کر میگی ۔
س ہے۔ بھٹی اسید	یا بین ن بون الاندا و مصرفه بازیابی مین کود و جیان کرد و است داران و دو با بیده مین سرور می رست میده و مین در همینی کے کسی بی والزیکٹری ندکور قرار دادیش ماسواے اس کے کیدہ و کینی کیشیئر مولار دنیا والزیکٹرزی هیشیت سے کوف والی و تجهی مین مین میں	b) لاگ ان کی سیاب AGM کے وقت ہے تیں (30) منٹ قبل کھو کی جائے گی تا کہ شرکا کا کوشاخت کے گل کے بعدا جاہا میں شال ہونے کے قابل بنایا جا سکے بیشتر ہولڈ درنتیئر بولڈ درنی شاخت اورتفعد کی کے بیاد کا مرکز کا کوشاخت کر مکن کے اور دوکر تیں لاگ ان اور شرکت کر مکن کے۔ محمل کرنے کے بعداجت آباب کے ذریعے AGM کی کا دروائی میں لاگ ان اور شرکت کر مکن کے۔
	<b>پیش طب جنج</b> برائے ہمعرات، 26 اکنو پر 2023 کومیٹر 11.00 بیچ ﷺ کنٹور کی ہوئل میں منتقل ہونے والے 60 ویں سالا نہا جات سام اس <b>فوان</b> : 100800170 2010000000000000000000000000000000	c) شیئر بولدُرز AGM سیم از کردن آل AGM کرایجندا آخر سے تعلق اپ تیمر سادر تجاویز دیا مے ای سل ایڈرلئر Mawer@gentipak.com پرارسال کر سکتے ہیں شیئر بولڈرز سے درخواست ہے کہا س مقصد کے لیے اپنا پورانا م، CNIC کم فرواز و لیکن CDC کا کونٹ فبروردج کریں۔ 3۔ سینطرل فی اوٹری کمانی آف بیاکمتان کمیٹوٹر کی فوج کا کا مخت مولڈرڈ کسیلے ہمایات:
	وي. ۱۵۱۵/021 عن منجر فيله اي وي الس اكا دُنت نمبر شير بولد الم اير اكن بولد ركانام	ی وی ہونو میٹرا کا وقت بولدرز کو تکیا بیٹر ایڈ انٹیجیٹی کیشن آف یا کستان (SECP) کی جانب ہے جاری کروہ سرگر 1 مجریہ 2000 متاریق کا جوری 2000 میں درج ذیل ہوایات پر مزید کل کرنا ہوگا۔ الگ ۔ — AGM میں فشرک کرنے کے لیے :
	رجشرة الدُرلين حال صفن كانعداد	a) افغرادی صورت مین اکاؤنٹ جولڈریا فی بلیا کاؤنٹ بولڈراوریا/جن کی سیکی دینیٹر گروپ اکاؤنٹ بیل بول اوران کی رجٹر کیٹن کی تقصیبات تو اعدو ضوابط سے مطابق اپ اوڈ بوں مولا میں کا AGM میں شرکت کے وقت شاخت کے لیے اپنااصل CNIC یا اسل پا سیورٹ بیش کرتا ہوگا۔ (b) کارپورے ادارے کی صورت میں ، AGM کے وقت بورڈ آف ڈائز کیکٹر ارداد کی اورا آف انارنی من شخصی وستخط کے ( تاوقتکیہ پیپلے فراہم کی گئی ہو ) چیش کرتا ہوگی۔
	CNIC / پاسپورٹ نمبر ( غیر کلی کی صورت ش ) ( کا پی فسلک کی جائے گی ) اشاقی معلومات اورانکلوژ رز ( باذی کار پوریٹ ، کار پوریش ، یا وفاقی تعکومت کے نمائند سے کی صورت بیس ) مجاز و تخذ کنندہ کا نام	ب۔ ٹمائندگان (Proxies) ک <b>ا قرری کے گئے:</b> a) انٹر ادی صورت میں، اکاؤ زن، بولڈر یا زکاؤ زن، بولڈر جن کی رجز بیش کی آنتیاں ت CDC <u>ک</u> ے اعدو خوابط کے مطابق اپ اوا و بول معندرجہ بالاشرائط کے مطابق پرانکی فارم تن کرا کمیں گے۔
	کاز دِ شِطَاکْنده کا CNICV/ پاسپورٹ فبر کلی کی صورت میں ) ( نی نسلک کی جائے گ) ) ایٹیڈا اسٹوٹیم 3 کی قراد داد	b) اصل ما کان اور پرانک کے CNIC کی قصدیتی شدہ کا بیاں پرانکی فارم کے ساتھ پیش کی جا ٹین گیا۔ پرانسی AGM کے وقت اپناانسل CNIC بیش کر سےگا۔ میں قدم کا شعب کر سے دور مادر دھر میں بیال کو
ية ورجة إلى ادرادون كويطورة من منظور كرنا-	حندجود لیا آزگیل آفسالیوی اعلی شرقه لی: پردا آف دار کیفردی جاجب سے جو بر کرده مینی که زمیل آفسالیوی ایش کی دفعات کوند کی کیلیانوروش اوراگرمنا سے جھاجا	اس است است است میں است کے بھارت است است است است کی جاتی ہے۔ است کی جاتی ہے۔ است کی جاتی ہے۔ است کی جاتی ہے۔ است کے انٹری فارم میں تدبیل کریں قرید ایکٹر کر کے بھٹر سرکتے والی کمنی کے شیئر مولد از سے درفواست کی جاتی ہے۔ است کی جاتی ہے۔
ں ہے میٹی کے صفس رکھے والے کو فقد یا دوسری صورت میں اقائل اوا لیگی منافع منظمہ ہے۔ میٹی کے آرفیگر آف آیدوی انڈ	آر تیکن بد تخریج: (21) "وَلِي فِيرْة " كاسطاب ہے اليك ان آر تظر اورا كيك كے قت وقافو قاجارى كرده تواعد و ضوابط كے مطابق كمينى كے منافع شر عمر تراميم سے محتاق مريد تفسيلات پيليدى 10 جرن 2023 كے اى او تى ائم كے قولس عمل خاتى موجى بين-	محقوظتو لی و بالمیک خصص کے اجراء کیلیے درکاردی کا ردوائیوں سے گریز وغیرہ ختال ہیں۔ عزید معلومات اور معاونت کیلیا شیخر مولارز تمار سے میٹر مقرار سے میٹر و خوال کیلیے میٹر میٹر اور اسے میٹر مولائے کی معاونت کے دریعے ووٹک کیلیے میٹر کی اور کا کیا گئے ہیں۔ شیئر بولڈرز کومٹل کیا جاتا ہے کیٹیز (پوشل بیلٹ) ریکولیٹوز ، 2018 ("ریکولیٹوز") می زمیم شدہ و فیکیٹین بتاریخ 50 تمبر 2022ء جوکر کیلیوٹر ایڈا کیجھنے کیٹر ان اسے SECP" کے وریعے جاری کیا گیا ہے کے مطابق،
مدود سے ساتھ جرقائل اطلاق قانوں اور ہاکھنوس سیکٹن 183ء یا اجلاس عام ٹین مجران کی جانب سے عائد کی جاسکتی ہیں، اح	آر مُمِيل 121 فعمومي احتيارات: آر مُكِين 120 كذا سيع عطا كرده موي احتيارات اوران آر مُكِلز كذر ليع عطا كرده ومُكرا فتيارات سرماته والنصب تا بم الي عد	SECP نے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ لمبند کمپنیاں الیکٹرا تک ووٹک کی ہولت کے ذریعے دوٹ دینے کا تق فراہم کریں اور گربران کو بذراید ڈاک ووٹک تمام کا دوباروں پڑھمومی امور کے طور پر درجہ بندی کریں ہے۔ اس کے مطابق مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط ہے۔ شروطا ورثقاضوں کے مطابق جنرات، 20 اکتروہ 2002 کوٹٹ 1:15 ہے۔ منظم جو
، جائداد کی مرمت، بہتری، توسیع اور برقر ارر کھنے کیلئے اور اس طرح کے ویکر مقاصد کیلئے (جمول وہ مقاصد جن کا دائر وچھلے ذ	واضح طور پراطان کیاجا تا ہے۔ کدڈاز کیٹر وکورری ڈیل اختیارات عاصل ہوں گے: (34) کیٹی کی رقم سے منافع میں سے کہ محق ڈو پیڈیڈ کی مفار اُٹر کرنے سے پہلے ،جیسا کدو دستا سے جھیس فرسود گی کے لیے مافرسو کی ادائیگل کے لیے باتھومی ڈو پیڈیڈ کے لیے باؤ و پیڈیؤ کو ہرا رکرنے سے لیے ما پولس شیخر تو بادی کرنے کے لیا کمٹی کا کسی	حن استعال کرنے یا خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے دوے دیے گیا جازت ہوگ ۔ شیئر وولڈ رونکی میرات کے لیے بیلٹ بیم کوفرش بنا کے ساتھ مذملک کیا گیا ہے اورڈا اکا اوڈ کرنے کے لیے کپنی کی دیب سمائرک www.etr.com.pk پیچی دستیاب ہے۔
یکاری کرنے کئے کیے جوان طرح الگ دعی گئی ہویائن شن سے آئی زیادہ مربادیکاری کی جائے جوکدہ مناصب بھیس اور مع دینا اورا کیے مقاصد کیلئے جیسے ڈائر کیکٹر زوا فی کامل صوابہ یزیش کا کئی کے مفاوات کیلیے سازگار تکھتے ہیں اس	آر کیل علی کیا گیا ہے) جیدا کرڈائز میکرز واقی کمل صوابد یدیں، کمی کے مفادات کے لیے سازگار کھنے بیں وادرائی آر کی سرمایکا فو گااس طرح کی سرمایکاری نے مثنا ادرائ میں فرق کرٹا ادر کمیٹی کے نائد سے کے لیے اس کے تام یا کو بھی مصرف اداوق معاملات بھی پرڈائز میکرز انا کو ووٹ بیں یا جن پردہ دوق خرج کرتے ہیں یاائن کا کوئی حصہ وہ معاملات و سکتے ہیں یا جس پر کہئی	5۔ ای دوگی کا طریقتگان (a) ای دوگل کی میدات کا تعبیات کوئی کے ان شیئر مولڈرز کے ماتھ ایک مل کے در یے شیئر کی جا کی گئی جن کے پاس اپنے درست CNIC غمررا موائی شیل ایڈرٹس کھڑنے کا مراز کی 18 اکتوبر 2023 کوئا دوہا رکا اختیام سے آل دشیاب مول گے۔
ی خریداری یا ادا نیل میں ادر یہ کیا ہے دیگرا فاقوں ہے الگ رکھنے کے پابند کیے بغیراوراس پر سودادا کرنے کے پابند کیے با	حما مانت جن بر دائر شفرند الوبويت بين يا بمن بر ده دوی فرج کرت بين با اين کا فرن همه، ده معاملات بوسط بين به م مجمين ، اور مجنق کرد دبارش فرمود کې که فذر اسب ته کوره بالا تام ياکس چی فشر د پرهشمل اغافو ک فوما د مست د بيا با مرتشک ک ها انت سيم مانته روز چي فروکو ان کي موايد بدير به ال طرح که فشر ز کسورت کريد شدن اول شرحول به اوا کرست يا اجال شارت	(b) و بب ایل این کانتسیلات ، بذرایدا کائٹر ادام کی مانو کر ایم کی ایم کی ساتھ بر دنی کو ڈزی کی کائٹر کر مرد کمیٹر (میلور) کاؤوائم کائٹر کا کے دیائے ادام کی کائٹر ایک کو ڈوئٹر کا کائٹر کائٹر کا کائٹر کائٹر کا کائٹر ک
فع كا حصد بنية والى كى كان أقر كومر ما يكارى كرنا مناسب بساور دُولا يُنظ كيلية ومثياب وويا كلنى السكى المحاص بالمولكيات	آرگل 142ریور ما مرابطانی: (الزیکورکونای وقت اور فرافو قالد قدارداد باس کریک وزیر کافن کردید دیارید دونشها کمین کے باتھ علی موجد فیرمشتم منافخ	(d) ای دونگ دائیس 201 کتر 2023 می 9:00 مجے سے شروع ہوں گی اور 25 اکتوبر 2023 کوشام 5:00 کی بھی ہول گی بھیٹر مولار داس مدت کے دوران کی بھی وقت اپنادوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بارکی قرار داو ہودٹ ڈالے کے اِحد است بھی مول ۔ است جنہ بل کرنے کی اجازت بھی مول ۔ 6۔ پیٹل وطٹ کے ذریعے دورٹ ڈالے کا طریقہ کارن
ل تقسیم سے سلسلے میں کوئی وشواری پیش آئی ہے، ڈائز یکٹرزوہی حل کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب بھتے ہیں اور خاص طور پر، فیسر	اجرا کیلئے پر پیم کے ذریعے موصول ہونے والی کو کی محق آم کیٹی کے بائس صفی عرص یا مرفیکیٹس کی ادا چگی ا جاری کرنے میں ایک آ بولا بھی سے مطابق مناسب التسیم کرنا ، یا بھورت دیگر الی دقوم کا مودا کر ہی جد کاروقر ارداد میں سفالیا کیا ہے۔ خیاد براس طرح مقرر کیا گیا ہے جیسا کرڈا در میکٹرز کے لیے موزول ادر مناسب بھیس جسمس سے کی مجی موالد زوکی تو دی بوٹس جسم جسم	شیتر وولار دا آن بات کوچین بنائیں کے کرکپیورانز د قومی شاختی کار دا (CNIC) کی کا پی کے ساتھ مگل طریقے سے جرے اور دختا شدہ بیلی ہے بچرے اور دختا شدہ بلیل ہے بچر کھنی کے رجمز ڈالیو دسی H-23/2 این کا اسٹریٹ بالانٹری کی کار بال کی ہے۔ کے دریعے بالیام کار کے دوران 52 کو AGM کے ساتھ دن کل <u>khawer@gentipak.com</u> کیا گئی کے دریعے بیشی تیکر بیرای کار سال کریں۔ بیلٹ بیم پروشط CNIC کے دختا ہے ممثل ہوں گے۔
ر دروبا ذخارَ بچه وَارْ يَکِشُرُونَ صوابد يه بره بنگا مي طال ست کو نيرا کرنے کيلے يا فون پُرابرکرنے کیلے لاکوبول ، پاکسی وام	آرگیل.143 میزندند: ۱۶ کار کار ای این اور ۱۶ کار دار تا کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا	7 - ای شمل ایڈرلیں اور موبائل قبر شال کرنے کی شرط: ممبران سے استدعا سے کہ واپنے اپٹر بے شروای کسل اور موبائل نمبرا پے نوزیکل نولیوییں کپنی کے شیئر رجنز اراور اپنے شراکت داریا پر وکرائ ڈی ہی انویسٹوا کا قریف سروسز سے ماتھ الیکٹر ایک شیل میں موجود بھس کیلینے درج کرائیں۔ 8۔ <b>فیروموجی شدہ مان خ</b> سصہ اور اوکس تصعب :
ন্ত্ৰীপ্ৰকৃতি কৰিব কৰিব এই এই কৰিব কৰিব কৰিব এই	ور میں مار پیدیں ہے۔ متعبد کیلے جس کیلے میٹی کے منافع کا مجھ طور پراطلاق کیا جا سک ہو، اور اس طرح کی ورفواست زیرالتوا ہ ہو گئی ہے، اسکی صوابطیا ہے ہو، ایک سے کی وفعات کے مطابق مناسب محمیس۔ 7دکیل 155ء منافع کا مرابط کا دی	3- سیروون سدهای سندویون در این میدادد و در این باکس بیش مورد دیا جاتاب کدوه داریشترز در خرار مسرزی و کی چشتر دخرار مردمز لینده می و کامی و 99- بی باک- بی S.M.C.H.S، مین شامراه شیر برولارز ، برکس بخی وجه سے ذیع فیر شده مناخی اور ایا برش شیرز کا در وی می مساورات حاصل کرتے کیلئے (اگر کوئی ہوت) سے مالید کریں - فیل برکرا چی سے بیشر شده مناخی اور ایونس معس کے بارسے میں معلومات حاصل کرتے کیلئے (اگر کوئی ہوت) سے مالید کریں -
ی نہ کی جائے تاہم اس کا اطلاق اوا میلی میں یا اوا نیلی کے لیے کیا جائے۔الاٹ اور سیم کیے جائے والے میلی کے بوس سیر	وائز یکٹرور وقافو قان میدھ کے کسی کے ساتھ کے کسی میں درواکا وعش یا ایا تی حماب کے کریڈٹ کیلیے فی افعال آم اس ک جانے جوان کے حقد اردوں کے آگر دیویڈیڈ کے دریے اورای قامب میں کتیج کے جا کمیں واس شرط پر کساس کی اور نیکن فقد ش	9- ای قام پی طامینشد بند کمپنزا کمب 2017 سیکش 242 کے مطابق ، پلک لمدائیکن کی صورت بٹن کم مجمی ایم ایم نیش کا پیر فیڈی کی سر (BAN) اور تعییات متعاقد شرکاء کے ذریعے بنداہ است اٹا شیخر بولڈوز کے تام دوکروہ بیک اکا وقت بٹن الاقوامی بیک اکا وقت نمبر (BAN) اور تعییات متعاقد شرکاء کے ذریعے منزل فی پارٹری سسٹم جس اپ ڈیٹ کرائیمی فرندیل شیخرز کی صورت بٹن ، تاریخ میں استان کی میک ان کا وقت کا میں میں میں استان کی ایم کا میں میں میں استان کی المیان کے میں میں کہ میں میں استان کی المیان کی میک المیان کی میک الاقوامی میں استان کی المیان کی کا کا وقت کی کا میک کا کا وقت کی کا کا وقت کی کا کا وقت کی کا کا وقت کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا وقت کی کا کی کا کی کا کا وقت کی کا کی کی کا کی کیک کی کا کی کیک کی کیک کا کی کیک کی کا کی کا کی کا کی کیک کیک
and the state of t	ڈ انٹیز زو ڈکردہ بالا نتاسب میں اس طرح سے مجبر ان کو اور ان کے بایٹرن مکمل طور پر ادا کیے جائے سے طور پر کریڈٹ کیا جائے گا، اور مکمئی <u>انتیجند اسٹر فیر 4 کے آر ادر اور</u> سیمنی سے شیئر موروز دکوسرا اور بیٹس ہیے۔ مما نج اور نتصان کے اکا وسے ، آؤیز کی رپورٹ ، ڈائز یکٹر ذکار بیورٹ ("آؤیٹ شروم	10 to
ن آف يا كتان في اجازت دى ہے:	ى شلى يا QR فعال كرد اورويب لنك كروسيع تربيل كى عموى قر ارواد كم بذراميه فهامتطورى ديا جيها كم سيكور فيزايندا ا • • قرار يا يا كم جيها كريكور فيزايذا بمجينج كميش آف يا كمتان كى جانب سے ايس آراد فيمبر 2023(20) (389هـ مورود 21 مارچ 2023	الاستسرین. فیڈرل بورڈ آف ریونیزی وضاحت کے مطابق اپیشیئز بولڈرز جو جوائٹ شیئر بولڈرٹ کے مالک ہیں،ان کیشیئرز پرود بولڈرٹ کا تشین پہلی شیئر بولڈراور جوائٹ شیئر بولڈرز جو جوائٹ شیئر بولڈرز کے الے تمام شیئر بولڈرز کے قابلے تام شیئر بولڈرز کے دالے تمام کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی جو بھی کی دور کے دور کی دو
"Mariji kantigara katiga Milawa da negaraji ng pagara	کوڈاور دیب لک کے ذریعے خطل کے جائیں گے جس کی تو ٹیٹ اور مطلبل کے لیے مطور کا دکی جاتی ہے۔ ماسے <b>جاری ک</b> ے۔	ا المارے شیئر رجنر الکودری ذیل کے مطابق تحریری طور پر فراہم کریں: پہل شیئر ہولانہ کہنی کانام فرید کی تعداد) کا شیئر دی کا شیئر ہولائے گا کا اس شیئر ذیک تعداد) نام اور کا این آئی کی نمبر ہولائے گا کا سب (شیئر ذیک تعداد) کا ساز شیئر دی تعداد) کا ساز شیئر ہولائے گا کا ساز شیئر دی تعداد) کا ساز شیئر دی تعداد) کا ساز شیئر ہولائے گا کا ساز شیئر دی تعداد) کا ساز شیئر ہولائے گا کا ساز شیئر دی تعداد) کا ساز شیئر ہولائے گا کے ساز شیئر ہولی ہولی ہولی ہولی ہولی ہولی ہولی ہولی
نوبائے میں تک (۷) کا فتال لگا کرمندرجہ ذیار آرادو دیمیری اُ جاری رضاحندی یا اختیاف بنا کیں گے۔	. ا براد کرم متعلقہ باکس پر (۷) کا نشان نگ کراہے دوٹ کی نشاندہ کا کریں۔ 2 اگر دوؤں خانوں کو (۷) کے بطور نشان زد کیا گھا ہے، تہ آپ کے بول کو "مستود" سجھا جائے گا۔ میں / ہم مندرجہ ال برتر اردادوں کے سلسلے شن پوشل بیلٹ کے ذریعے اپنا آجا رادوٹ استعمال کررہے ہیں اور قبل میں دیے مصفطانہ	الكاؤنونمبر كلدهادانا تزييز ديدكين
يي- (حور) عمر ايم قرايم قراده احتاف تريم وظاف)	قرارداد شرارداد المعدد كريم المداد	لیینز دے: مطلوبہ علومات 19 کوزیر 2023 تک مومول دیونے کی صورت میں میں جواجائے گا کہ پر ہول شیئر زیانا ، اور جوائٹ شیئر بولڈر (ز) شیئرز کیا کیساں ملکیت کے حال میں کی تئم میر میرسوالات/معلومات کے لیے شیئر بولڈرز کی بھی اور یا
	ا پینڈا آٹٹم ٹم کر گرافداندان 1. درسٹ طریعے سے جو سے ہیں کہ اور اسٹان کی اغرش ایک کی اندان میں اندان کی افران کی عمل اسٹان اندان کی عمل اسٹان 2. CNIC/ پاسپورٹ کی کی افران کی کھورت میں ) پیٹل بطان فارم کے ساتھ شکلہ یوٹی جا ہے۔	ثيتر رشرار سه درى ولي فون نبر را ادارى بيل ايله رسم بر را البله كرك يتي بين: توكى تأثيتر رميز ارمر ومز (بها تكويت) لميلانه حسين قل قال تا توكى كاك بالاس B-19 وبالك B، پيشا نظر يشير فيمبر ا
پے۔ اس تاریخ کے بعد موسول ہونے والاکو کی بھی پوشل بیلٹ و دشک کے لیے زیر تورٹیش لایا جائے گا۔	3. ملٹ میرکاروباری ارقات میں مجنی کی میرک پاس بدھ 25 اکٹر 2023 تک یا اس میل موسول او جانا چاہیے 4. میلٹ میر پرد شوند (CNIC) پاسیورٹ پروشنا سے مماثل اور این کا میں موسات میں )۔	الين اليم التي التي التي التي التي التي التي التي
ں ، تمام وستاویزات کوتونفسل جزل آف یا کستان سے تقدیق شدہ ہونا صروری ہے جونمبر پروائر ہ افتیار رکھتا ہوں	5 نامگمل، فیروخناشده ، غلاء فراب ، پیناه کی شده ، ادوردانت شده بال پیپرمستر وکردیا جائے گا۔ 16 باؤی کار پوریٹ ، کار پوریش یاد فاقی شکومت کے نمائند کے صورت میں ، بیلٹ بیپر فادم کے براتھوکی کار پیشن کے ۔ 2017ء کے میکنٹوز 138 یا 139 کے سیار کا ٹال اطلاق ہے۔ فیرنگل یا فی کائر پوریٹ وفیروک معاشلے شن	ائ مل: <u>cdesr@cdesrsl.com</u> اپیستینتر برادرز جوابین ذیر پیر نیر نیر کشتر و دسول نیس کرستے ہیں ان سے گز ارش ہے کروہ اپ الاحوی ڈیر پیر نیز دہ اگر کوئی ہوں، کی وصوبی کی مطومات کے لیے ہمارے ٹیٹیٹر زم کر کیٹے اور کوئی ڈیر پیر نیز اور کیٹ کے بیٹیٹر نوٹ کیٹ کیٹیٹر کا میٹیٹر کا میٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کیٹیٹر کا میٹر کا بھر ہیں 16 میٹر کیٹر کے میٹر کا میٹر کیٹر کے بیٹر کا میٹر کے بیٹر کا میٹر کیٹر کے بیٹر کیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے انداز کر کیٹر کیٹر کے بیٹر کیٹر کے بیٹر کیٹر کے بیٹر کے بیٹر کیٹر کے بیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر ک
بيريك يبيرة اون اود كرسكة بين يا خبارات بين شاكع اوف والى اسل أفر لوكالي استعال كرسكة بين -	7. ويك بير فارم مين كا ويب ما تك <u>www.ptr.com.pk ي</u> مي آويز ال كيا كم اب شير موالدرووب ما تط	بدر لايد و کارد ايد را مقدرو و کا چاچا چاچ کا کا درو در کو پهرات کرد که در سائل ماند که در سائل می درود کارد در که در سائل می درود که در سائل می درود که در سائل می درود که درود که در سائل می درود که در سائل می درود که درود که در سائل می درود که درود که در سائل می درود که درود

غیمز وولذرا پر اسی وولد و دیخدانجاد و سخداکننده (کار پوزید، اداری کی صورت شین براه کرم میلی کام را کامین)

اليجنزا أكلم 3-درج ولي آركل آف البوى الين شار أمم:

# PUBLICATION OF NOTICE OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING, DATED S OCTOBER 2023 IN (DAY NAWA-I-WADT), KARACHI.

	ے ۔۔۔۔۔ام کے ان	ble Ku			
L'Ass	f Lines	1 4 4 4			
آر مُثِلِّى 2 تَعْرِيَّةً: (2)" ويو يُرهْ" كاسطلب ہا يك كى دفعات كے مطابق كين كے منافع عمر سے كہنى بے صحص يافتطان كو	7 (サラ2.ピュー ) これがは、まれが(21)	The state of the s	ات كامشابده اور تمام ريكوليفري تقاضون كافتيل كريكي - AGM م	ودرج ذيل كاررواني مركمل درآ مدموكا:	سكثرا تكبية والغ سيمنعقد يوكاجس ثله
ورا یک کے تحق وقاق قاجاری کردوقو اندوضوا بلے تحق نقدیا کی تحی شم شرب قائل ادا یکی ڈیو لیزند۔ آرنگل 121 عمر می احتیارات:	آرنگیل 121 ضرمی اهمیامات:		ر کیشر زاور آ دینر زکی رپورٹ کی وصولی ،ان میخورو خوش اور منظوری ۔	ي پيشده گوشوارون تع جائز در بورث، ڈا	200 کونترور فروالےسال کے آ ڈیٹ
آر مُكِل 120 كيرة ربيع عطا كرده عموى الفتيارات اوران آرفيكؤ كير وبيع حطا كرده ومكر الفتيارات كسم تعصب تابم المي عدد حسر ساتيم جو قائل اطلاق قانون او بالخنوش سيكش 133 ، يا اجلال عام بيش مجران كي	اليي حدود كيساته جوقائل اطلاق قانون اورغاس طور رسيكش 183 ، يا جلاس عام مين مبران كي جانب سے عائد كي جائتي إين،	يد چو مدرى ايند منى چار رو اكا وسلس كوبا منى رضامتدى سے اجرت پردوباره قالون	ن کےمعاد مضرکالعین بورڈ آف ڈائر بکٹر زینے میسرزشائن دنگ ح	رنمینی کرتانونی آنا شرز کی تقرری اور لا	200 كرفتريو زرا ليهال سر لير
ے ناکد کی مائلتی ہیں، اس کا واضح طور پراعلان کیا جاتا ہے۔ کہذا تریکٹرز کو درج ذیل افتیادات حاصل ہول (34) کمپنی کی رقوم کے منافع میں ہے کہ بھی وابو پلیشر کی منطار شرک کے سے پہلے، جیسا کہ دوہ مناسب جمیس	اس کا واضح طور براعلان کیا جا تا ہے کہ 1 اگر کیٹر ڈوکورن قابل اختیارات عاصل ہوں گے: ( 34) کیٹو ہاک رقع سے مرباغ میں ہے کے مجلی والو بذخر کی سفارش کرنے ہے میلی جیسا کدو مرتا سے جمیس ،فرسود گی کے لیے یا				لیلے رضامندی قراہم کی ہے۔
مے لیے یافرمونی کے فقر در برروفڈ یا سنگ فقر متروک یا بڑھا می طالت سے شطنے کے لیے کی دہر سے فقعہ انگ کر نایار شکلیٹس کا ادا منگل کے لیے یاضومی ڈو پھرٹ کے اپنے پارٹی ٹھے گئے ، ایالٹس ٹھ	فرسود کی کے فتہ در مزرد فتنہ ماسکنگ فتذ متر وک ماسمی دوسرے خصوصی فتذ کو بنگای حالات سے منتے کہلئے الگ کرنا یاس تعلیمس کی 🏻 -		نے ڈائز بکٹرز نے تجویز کیا ہے، کوضوسی قرار دادوں برخور وٹوش ادرا گ	مارتیم: محربان فراه زیر مصدا کا الادفار	اليوى ايشن كرورج فريل مضامين شر خلاج نه الروس اليشب كرونه المراس المراج
کرنے کے لیے کینی کی کس بھی جائیداد کی مرمت، بہتری، قریبے اور بھر ارد کھے کیلئے اور اس طرح کے وہ کیلئے (جنول وہ مقاصد جن کا دکر کچھا و کیا رفیل جس کیا کہا ہے) جیسا کہ دائر کیمٹرز دائی مکر اصوا بدید ش	ے لیے اور اس طرح کے دیگر مقاصد کیلیے (بھول کرشید و ملی آرٹکل میں فیور مقاصد ) جیسا کدوائز پیکڑز وا فی ممل مواہدید				5.5
منادات کے لیے ماد کا رکھتے ہیں، اور اتی رقم کی مرماید کارے کے لیے جواس طرح الگ درگی گئی ہو۔ سے آئی زیادہ مرماید کاری کی جائے جو کدوہ مناسب جمیس ، اور وقافو ٹھائس طرح کی مرماید کاری سے مشااد	یں سے اتن زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جواس طرح کی سرمایہ کاری (ماموائے کینی کے صف ) برسرمایہ کاری	کے حال افراد کو فقد یا دو مرکی صورت میں قابل اوا میکی منافع مقسمہ ہے۔ صدار الد ترقیق میں مصدال سیکھی ادارہ کا دروال مذکل عبد کا اور کا طاقہ			12 خصوصی اختیارات:
قرق کرنا اور کمپنی کے فائدے کے لیے اس کے تمام یا کمی بھی جھے کونقرف اور لؤسیع وینا اور ایسے مقاصد	کرتنام ما کمی بھی جے کو این انداز میں انداز میں اوران طرح کے مقاصد کمیلے تقرف کرتا اددان میں توسیع کرتا ہیے ڈائز بیکٹرزا بی کمل	ية بل اطلاق تا نون اور خاص طور بريكيش 183 ما جزل بينگف غير نمبران كي طرف مع من من مركز من الترقيق التركز ا	تبیارات ماصل موں مے:	بإجاتا ہے۔ كەۋائر يكثرز كودرج زيل اف	وحاسكتي جنءاس كاواضح طور براعلان كيا
لا کوہوتے ہیں یاجن پر دووی خرج کرتے ہیں یاس کا کوئی حصہ، دومعا ملات ہوسکتے ہیں یاجن پر چی کے سر		ننگ فنز معر وک یا کس دوسرے ضعوص فندگر بنگائ مالات سے خطنے کیلیا الک کرنا یا رقر اور کھنے کیلیا اور اس طرح کے دیگر مقاصد کیلیا (بشول چیلیا دیلی آرٹیل میں فرکور	ری کرنے کیلئے یا ممبئی کی سی جی جائدادی مرمت، بہتری، توسیع اور :	رنڈ کو برابر کرنے کیلئے ،یا یونس شیئر زجا،	وادانتكي باخصوصي ويويدنته كسلية باويويثه
طور پر اطلاق ہوسکا ہے یا شرح کیا گیا اور دیر دوفتاکو اپنے خصوص فٹٹر ڈیٹن منٹسم کرنا جو اگر کیٹر و مناسب سمپنی کے کاروبار میں فرمود کی سے فٹر زمسیت میکورہ بالا تام پاکسی گئی فٹر ڈو پر مشتر آنا اول کو طاؤمت دیتا۔	ادا يكل بين اوروه بغير كى يابند كي غاوره بالا تنز زجمول فرسودگ ك تنز رجى سے تنام ياسى ليك برهمال ا اول كواستال	ادہ رقم کی سریار کادی کر سکتے ہیں جو کدو دستان سیجھیں،اورودیت سے اس طرح کی نے اور اس میں تریخ کرنے کیلیے ڈائز کیکٹرز دائج ممل صوابدید میں، مہنی کے مفاوات	م بھی جھے کواس انداز میں اور اس طرح کے مقاصد کے کیے تصرف کر	بنی سے فائدے کیلئے اس سے تمام یا کم	ں ہے نمٹلنے اوراس میں فرق کرنے اور کمپا
ک تریداری یاادا نگل عمی اور پرکدا ہے دیگرا فاٹول سے الگ رکھنے کے پابھر کے افیرادرائی پرمودادا کر سا کیے بغیر معالت کے ماتھ ماتام، ڈائر بھر زکو ادال کی سواید پر براس طرح کے فنڈ نہ کے مود کے کر بیٹ کوا کہ	ان کی صوابدید برا النے فنڈ ز کے صود کی اوا تیکی یا جازت دینے کے لیے اس طرح کی شرخوں پر ڈائر بکٹر زمنا سب بھٹے ہیں۔	نے ہیں اجن پر کہنی کے کیولل فر کو بھاظور پر لاگو اخری کیا جا سکتا ہے اور زیر دوفتہ کو بند کے اخرہ قام یا مدروجہ بالافٹاز دیش سے کی ایک پڑھٹنل اخافی کو لما وست دیے	یا سرتیفلیٹس کی شریداری یا اوائیکی میں،اور بیکدان کوا لگ رکھنے کے پا	اسب مجھیں،اور ممینی کے کاروبار میں	بافتذ زمين تقسيم كرنا حبيها كدؤائز يكثرمنا
ادا کرنے یا اجازت دینے کے لیے جو ڈائز کیٹر (مناسب جھیں۔ آرٹیل 142 دیز دکا مرابطانی:	35161 4822 142 187	يى شرحى براداكرف ياديية كى اجازت دى جود اگر يكثر دموز ول جمين-	طاقت كيمهاته ، تا بهم ؤائز يكثر زكوا پي ضوابديد پرايسے فنڈ ز كيمودكوا	راس پرسوداداکرنے کے پابند کیے بغیرہ	فمول فرسود کی فنڈ ز ، دیگرا ٹا ٹوں سے اور 14 رمزرہ کی میر مار کاری:
ڈائزیکٹرز کی مجی وقت اوروقافو قالیک قرارواد پاس کرسکتے ہیں کہ کپنی کے دیرودیار پر دوفتہ یا کہنی ک سرجود غیرمنظم منافع کا حصہ ہے والی کی مجی رقم کو مربا ریکاری کرنا مناسب ہے اور ڈول پیڈیل کیلئے وسٹیا ہے، و	کھٹی اجلاس عام بنس کی بھی وقت اور وقا فو قالیک قرارواد منظور کرعتی ہے کہ پینی کے دیزود کے کریڈے پر موجود فیر منظمہ منافع کا جصہ بنے والی کی بھی وقم کو مرماید کاری کرتا مناسب ہے یار یزود فٹار یکٹنی کے ہاتھ بھی اور ڈاپو کیٹر کیلئے دستیاب ہے وا	ح کا حصہ بننے والی کی بھی رقم کا سر بایہ لگانا سناسب ہے یا کہنی سے کئی بھی صفعی یا سر لادی کرتی ہے اور اس طرح سے بوٹس صفعی جھس ایسر میکلیٹ یا و چھڑ کو کھٹی سے شیئر	ں جھنس پاسر تیفلیٹس کی اوا نیکی/ جاری کرنے میں ایسی رقم یارقوم کا ا	نے والی کوئی بھی رقم سمپنی کے بوٹس حصہ	اجرا مرزرتعاون کے ذریعہ موصول ہو۔
سمی می حصص یا موقایت کے اجراء کیلئے پر بیم کے ذریعے موسول ہونے دالی کوئی بھی آئم سمبنی کے ہوئس صفا مرشکلیٹس کی اوا شکی کم جاری کرنے جس ایسی آئم یا وقع کا اطلاق کرتی ہے اوراس طرح سے بوٹس صفعی جسم	کیفی سر می بھی صعص یا بر فیکیش سے اجراء کیلئے پر میم سے ذریعے موصول ہونے والی کوئی رقم ادرید کدا یک کوئی بھی رقم یا رقوم التیم کیلئے باامنا وخدر کی جا کمی ادرم میران کیلئے اوران کے درمیان آخ کیس کی کوئی کے ساتھ عالم سے اختراک کیا	ی مسیم <u>سے سلسلے میں کو</u> لی دخواری چین آنی ہے، ڈائز یکٹرزونی مطے کرسکتے ہیں جیسا کہ	ر کور دقر ارداد میں مطب شدور قم سے ساتھ معاملہ کریں۔ جبال اس طرح بڑری ونس جھس جھس میں مرفقالیٹ کے کیے نقل ادا میگی کر سکتے ہیں۔	منا <i>سب القسيم كريي ، يا بصورت ويكر ف</i>	بی میں ان کے شیئر ، ولڈنگ کے مطابق
یا و پیچر کو کمپنی سے شیئر بولڈرز کو کمپنی میں ان سے شیئر بولڈ نگ سے مطابق منا سب اکتشیم کرنا میا بسورت دیگر سودا کریں جز مذکورہ قرار داد میں طے کیا جما ہے۔ جہاں اس طرح کی تقشیم سے سلسلے میں کوئی دیٹواری میڑ	كشير بروادى كرمطان اس طريق يرجس طرح قراددادكى جائد ، بعرطك الحراق فتسيم نديوه بنايا جائد جب المسكر والتركي المساح	زنى موابدىدى، ينكاى مالات كو يوداكر في كيا ياؤي يليط كوبرابركر في كيا	and the second		:14ريزدونلا:
والريكرووي حل كريطة بي جيها كدوه مناسب يحية بي اور فاص طورير، قيت في بنياديوال طرح مقر	اطلاق کریں کے یا کمنی کے موقیات اور مناسب ایے صفس یا موقیات یا ویکٹی کواپیے صفس کے حالین میں ان کے صفس کے مطابق بالرجید ان کے شیار کا استخدار کا کا استخدار کا استخدار کا استخدار کا استخدار کا استخدار کا استخدار کا کا استخدار کا استخدار کا استخدار کا کا استخدار کا استخدار کا	ح كى صوابديدى، يا تؤسم فى كاروبار مل طار تمت كى جائلتى بسياليك سريابيكا وى ش	بیاجاسکتا ہے، اوراس طرح کی درخواست زمیالتوا و بوسکتی ہے، ای طرر	لي سميني ك منافع كالمحيح طور پراطلاق	یاسی دوسرے مقصد کے لیے جس کے۔ پاکسی جاسکتی ہے جیسا کیڈائز یکٹرز، ایک
كيلية نقرادا عِن رَعَط بين - الله المناس الله الله المناس الله الله الله الله الله الله الله ال	سطار با بریب ان سے سر اور در میں اس مر سے ہوئی ہے۔ جہاں اس طرح کی تعیم کے سلط شری کی در اداری اس اس مرح کی تعیم کے سلط شری کی در اداری اس کا میں اور ماس کی ہوئی در اداری کی اور در اور کی اور میں اس کی بھی میں کہ میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں اور میں میں اور میں میں میں اور میں	بار لگانا بالصورت دیگروستاب سے تقتیم اور اس سے مطابق المبی اقم مروان عن تقتیم	and the second s		15 منافع کی سرمار کاری:
	بیل ای ہے داریسر دون کی رہے ہیں ہیں اور جس ب ہے این اور مل سرور پر برون جیسے بال کرتے ہیں، فال میں میں اس کے ا بیم مل طور پر موجود جس یا سرنگیش کی تقیم کے لیے قد رقیق کر کئے ہیں جسس کے کہ می بولار دو کو حق ان الم جسٹ کرنے کیلے اس قدر طیشرہ قدر دی بیاد پر نقدادا نگی کریں، اور کی جمی حس یا اواجے کوان لوکوں کیلیے فرسٹ مل و مجس جو اختصاص یا	بلكه واليلي مين ياس كركيا لوكي جائي-الات اورهميم كيه جائي والسيم ال	، میں تقسیم سے جاتمیں واس شرط پر کداس کی ادا لیکی نقل میں مذکی جائے	أكرؤ يويذنذ كي ذريع اوراى تناسب	ور کھی جائے جواس کے حقد ارہوں سے
	التسيم كي حقدار بول جيها كدوائر يكثرز كيك مناسب اورمناسب جيس، جب ضروري مجما جائ اتو تركي كاور برايك معاده	electrical transaction and transactions are	ر پرکریڈٹ کیا جائے گااو کمپنی اس طرح کی قرار داد کو نافذ کرنے گا۔ دی مدرجوں شرور سال انسان سال کا در روی سمین سالت	ل:	ربيد بشمول إطان بعام يحادثن كالزنيل
PCC (A PROCESSA DE ANTE EN LA CARRESTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CAR	ا کیک کی دفعات کے مطابق دارکیا جائے گا اور ڈائز کیٹروکسی جھٹھن کوئاس طرح کے معابدے پروخونا کرتے کیلے ال افراد کی بیاب ہے مقر دکر تکتے بین جوانتھا کسی انتشام کے مقدار بین اوراس طرح کی افر دی مؤثر ہوگی، اور معابدہ اس طرح سے صف	, جولڈرز کوائی کیسل ARL فعال کوڈ اور ویپ لک کے ڈریغے جز ل میڈنگٹز وغیروکا ٹوٹس کی قرار داد کے ڈریعے منظوری: میں میں میں اور میں میں کا ARC کیسل ARL کیسٹر	ورثير ايند اليمين ميش آف ياكتان في اجازت دى ب، كيك أيكم	رخہ 21مارچ 2023 کے ڈریعے سیکی	SRC نمبر (1)389 سال 2023 مو
	ے مالین کی متطوری کیلے جو انیں بالر تیب الات کے جائے کیلے ان کے دووں کے اطمینان کیلیے اس طرح کی سر مامیکاری کی می دقر سے سلط بین فراہم کر سکتے ہیں۔	لارية دي شده بالياتي توشوارون QR2 كريا WSB/DVD/CD جا QR2 فعال كود	3 مال2023مورونه 21مار \$2023 كے ذریعے میں کیا ہے ہمار س کے لیے منظوری دی جاتی ہے۔''	بیا کتان نے S.R.O تمبر (89(۱) ندہ صابات کی ترسیل کی تو یش اور مستقبل	إكر جيسا كديبكور ثيز اينذا تهيين ميشن آف نك كيزر يعمبران كوسالاندا ذك ش
ارتیل،143ریردوفا: اور بیشرز رسی می ویدیده ک سازش کرنے سے قل مینی سے منافع میں سے ایک رقم م کوالگ کر سکتے ہیں :	آر مُثِل 143. بردافلا: والريكرور كي مجاوله في في عارش كرنے في كل مجنى كرمنافع عن سائى رقين الك كريخة إين جوكرور يردو كي طور ي			بں انجام دہی کی جا سکتی ہے۔	ازت سے سی دیگر کاروبار کا AGM
الأكوبون، ياسى دوسر مقعد كيك بش كيك مين كمنافع كالمح طور يراطلاق كيا جاسك اوداوراس طرح		an van engelagen. George in de Salander op de <b>Sala</b> nder o	A کے نوٹس کے ساتھ فراہم کی جاری ہیں۔		ئ 2017 كىكىش (3) 134 كى تى
زیرالنوا و دو مکتی ہے والسی صوابد یدیر یا تو کمپنی کے کاروبار شد مالائرے کی جا مکتی ہے یا المی سرماییکاری شر کی جا محق ہے جدیدا کہ ڈائر کیکٹرز و وقافو تھا کہ یک کی وفعات کے مطابق مناسب جمیس۔	صوابدید پر، یا تو سیخ کاروبار بی طادمت یا اسی سر مایدکاری (ماسوائے کمپنی کے قصص ) بی سر مایدکاری کی جانے جیسا ک وَالْرَ يَكُورُ وَالَّا فِوْ قَالَا يَكُ كَا دَفِات مِنْ مِنْ اللَّهِ مَاسِبِ مِنْسِلُ -	حسين في خان چيف انگريمشيما بفسر	i kan digili di kasa pelandaksa dipunga. Dilangga di disungka gnasa kanggan da	en e je i e i ji i e i ni e en estjorgen e i ganje y	20:
ارتکل 155 من فی کامر مایکاری وار کمران و قارید الله کار سے میں کر کمنی کے کسی می ریزدوا کاؤٹش یا الیانی حساب سے کر ایک ک	آر میل 155 منافع کامر ایکاری سین اجاری مام میں داور یک خوارش برید فیصلہ رستی ہے کہ کیٹی سے کہ میکی ریز دواکا وشش سے کریڈ ش سیلے وقع طور پر آم				فرکت کی بندش:
رقم/منافع كمي مي صيح كاسر ماييكاري إيسورت ديرهيم كيك وستياب بادراس كمطابق اليي و	سے تھی جھے کو سرایکاری کرنا شروری ہے یا الیاتی جساب کے کریلے نے پرنا تھیم کیلئے بصورت دیگر دستیاب، اوراس کے مطابق آئی رقم ال مجران میں تقلیم کیلئے یا معاوند رکھی جائے جواس کے مقدار ہوں، آگر اور پیڈیڈ کے در بیتداورای	ر جنرار مصررتی ڈی کی شیئر رجنرار مرومر کمیٹلہ ہی ڈی تی ہاؤس، 99- لی، بلاک- لی، متعدد کیلے بروقت تصورتے جاسمی شے ، اس مدت سے دوران رجنر میش سے لیے کو کی	ہٹائل میں) تک AGM کے مقصد کیلیے بندر ہیں گئے۔ ہمارے شیئر متآم رموصول ہونے والے فرانسوکو سالا نداجلاس عام میں شرکت ک	20 ہے 26 اکتوبر 2023 (ووٹوں ایا م میں 18 اکتوبر 2023 ءکو کاروبار کے اف	یشیئر ٹرانسفر کے کھاتے 19 اکتوبر 023
اس شرط بركداس كى اواليكل قلد يس ندكى جائة تاجم اس كا اطلاق اواليكى بن يا اواليكل ك ليكيا جائ	تاب بین تعلیم میں اس شرط پر کرا ہے نقد ادائد کیا جائے تا ہم الاٹ اور تعلیم کیے جانے والے کمپنی سے تعمل فیر جاری شدہ صعبی او تنظیر زکیا والے کی کیلئے ورخواست دی جائے گی مقدور والا تناسب شن اس طرح کے اداکین کو اور ان کے مائی	Black of the Control of		كۆرىلىچىم كىت:	ن بیں کی جائے گی۔ پیش جسمانی موجود کی ماویٹہ یو کا نفرنسک
محمل طور بدادا كيه جائے كے طور بركر يارث كياجائے كا اوركيني اس طرح كى قرار دادكونا فذكر سے كى۔	میں اور گئی سے طور پر کریے مالیا جائے گا دادر الزیکم قرار اور اکا افتراکی تر ارداد کو افتراکی تر ایک افتراکی تر ارداد کو افتراکی تر ارداد کا افتراکی ترکی دارات کے اللہ میں اس استعمال کے اور استعمال کا اللہ میں اس استعمال کے دارات کے	، ہو لئے اور دوے دیے کا حقرار رکن دوسر سے مرکوا پی جائب سے خرکت کرتے ، ہولئے ۔ ہاہے۔ پراکس کے دحاد رہ کی مزید کا بیان مجمول دوگر کا اوقات میں کھٹی کے درجر ڈا آخس	ا بین مثر کست اور دوث دینے کے الی بین - AGM بین تُرکت کرنے ق مراکمی کاایک دمنا و مزارا کین کو جسمے کھے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا	نا کے رجیٹر میں موجود ال ، وہ AGM	بين كينام 19 أكتوبر 2023 كوميرال
i - vi	چی کی دارمیس کا پیروزه سو کی اردوزوی سی موجه بی سے شدہ میں سے بر مصدری دیے رہ سروں میسیس میں مزید براس کا مرد (423(۱/۱۵)18 کے قاضوں کے مطابق بود ڈائٹ ڈائر کیکٹر ز کا ایک آخر کیا بیان مندروزیل میں ادوبار مق قدر ملان	صدقه کالی <u>khawer@gentipak.com</u> یا کی میش کروندیده یا میخی کروشرو	ہے جمی ڈاؤن کوڈ کیا جاسکتا ہے۔	بىپ سائٹwww.gtr.com.pk	ل کی جاشکتی ہیں۔ برائسی فارم کمپنی کی و
ن آر شیکار آف ایسوی ایش کی متعلقه شقول بیس قانون کی لا گوشتوں اور ایکولیفری فریم ورک سیکے مطابق تر ایم کی جمعہ سے در مگ	معندیادا تا بزایند روز میخی این کی بدرد آف دار کیشر داس بات کی آندید تی کرتے میں کدانہوں نے کپنی کی میرود نم اور محمد سارانا تا باید دروز میخی لینزد (۱۱ میکنون) کے بدرد آف دار کریشر داس بات کی این کہ اس مار دروز کا میں اور	ويل بحث كراوي-	كي ذريع ماسوائ عام تطيلات اجلاس كي وقت سيم از م 48 كمين	نگ اسٹیٹ،لانڈھی،کراچی پرڈاک۔	غام423/2 H-23/2 ولانترهي انترستر مل ثريثهٌ
	بات كى مى تقدى يق كرتا بكد يمووهم اوراً وفيكز آف ايدوى ايلن شى ترائيم يكي يا جموق طوريراس كداراكين كدمنا دش تقسان و	لوّر 2023 كاروبار عدونے سے فل حب ذیل ماملونات فراہم كري:	da se transcriptor de la companya d		کت کی سہولت فراہم کی جاسکے۔
بين المرتبعة	الجينزا آعم 4- كواركوا ورويب لك يدور في سالاندا وششره الاون كيارتيل	ر ای کیل کا ایڈریس موہال فون مبر	Cr IC فيراى وكالمائية المائية	دوا سے پیش ہورگر اور کے دو کو است کی ج سمینی مارا نا نرا عند ریز کمینی کمیانیڈ	السى جولتْدركا بورانام
وں کوائی میل ایڈریس کے ذریعے کروش کرے کی اگر میمبر کی جانب سے میٹی کوفراہم کروی کی ہے،اور مطالبہ	سكي و رثيرا بيز الميني كيشن آف ياكستان نے است S.R.O غمر 389(I)/2023 مورد 121ر 32023 كي در سيد الله كهنيوں كوس كرور ميدا بين غميران كومالا قد آف شده بالياتى كوشواروں كي ترسل كما اواز ت دى ہے كينى كے مالاند آفوت شده مالياتى كرور ميدا ہے غميران كومالا قدا تو شده بالياتى كوشواروں كي ترسل كما اواز ت دى ہے كينى كے مالاند آفوت شده مالياتى	ر دووت شن موصول ہوئی میں جیسا کداد پر درج ہے۔	ں کے ساتھ شیئر کی جا ئیس گی جن کی ای میل اور دیگر مطلوبہ معلومات مقد سر میں	راسناد صرف ال ممبرو <i>ل أ</i> نامزد يراكسيوا	ہ نوٹ کریں کہ ویڈیولنک اور لاگ ان کی
یں ہے۔	یافتگان کوسالاندا فی شده های بیانات کی باردگاییال مکمل اور پرکهل درخواست فارم کی دسولی بربا معاوضرفرانهم کرستگی و چوکتنی کی او شمینی سرسی بھی فیار کیشرکی فیکور قرار دادیش ماسواسته اس کرکدره کمپنی سیشیخ مولدرزیافاتر کیشرز کی میشیت سے کو ک	تے شیئر ہولڈرزشیئر ہولڈرز کی شناخت اور تعمد بی کے لیے در کاد تمام رسی کارروائیوں کو	ہ کہ دو دی گئی تاریخ اور وقت پراجای <i>ں بین شرکت کرنگیں۔</i> کا وکیشاخت کے <b>ٹ</b> ل کے بعدا جایس میں شال دونے کے قابل بنایا ج سرکتاری سے میں	) (30 )منٹ قبل کھولی جائے گی تا کیش	ن کی سہولت AGM کے وقت ہے تمیں
يو مختل الموثد منته	يۇش يىلىپ	khawer@gentip. رارسال كريكة بين شيم مولدرز بدوخواست بي كداس	مے متعلق ایے تیمرے اور تجاویر دیے مجھے ای میل ایڈرلیس <u>ak.com</u>	ے دن قبل AGM کے ایجنڈ ا آئمز ۔	رنے کے بعدایے آلات کے ذریعے ا الڈرز AGM سے کم از کم دو(2) کام۔
ام("AGM") میں حصوصی کارویا دیے لیے میا مقامل M.T خان دود مرا یک بیٹنے پوسٹ کے دریعے ووج عید مائٹ	برائے جعرات، 12 کو بر 2023 کومیج 11.00 ہے چھ گلزری بول میں منعقد ہونے والے 60 ویر سرالا شاجلاس عا <b>فون: 3</b> 5080172 120(10 الائٹر) و	of the second second	كيك بدايات:	اُ ی کی) کے سر مار کا را کا و نث ہولڈرز	کے لیے اپنا اورانام، CNIC نمبراورو کی و پارٹری کمچنی آف یا کستان کمینٹر (سی ف
	ف <i>ۆلوان</i> ى دى الىن ا كاۋنت نبر شىئر بولدار كېراكى بوللر كانام	·	S) کی جانب ہے جاری کردہ سر کلر انجر پیر 2000ء ہتاری 26 جنوری	ہے:	۔ AGM شرکت کرنے کے
:	رجشرة اينيريس حال جمعن مي تعداد	بر ایند و ضوابدا کے مطابق اپ لوڈ ہوں ، کو AGM میں شرکت کے وقت شاخت کے لئے		ے پیش کرنا ہوگا۔	اینااصل CNIC مااصل باسپورس
	CNIC / پاسپورٹ نبر رخیر کلی ک صورت میں ) ( کا بی نسلک کیا جائے گ) اصافی معلومات اورا فکار ژر ( باؤی کار پورٹ مهمار پوریشن میا وفاقی شخومت سے نمائندے کی صورت میں )		يشرزى قرارداد/پاورآف انارنى م شخص د سخط ك( ناوقتيك ببليفرا به	لے لئے:	نمائندگان(Proxies) کی تقرری کے
	علی از دستو کائنده کانام مجاز دستو کائنده کانام مجاز دستو کائنده کا CNIC/ پاسپورٹ نمبر (غیر کلی کی صورت میں ) (فی نستلک کی جائے گی)	ندرجہ بالاشرائط سے مطابق پرائسی فارم مح کرا میں گئے۔ CNI چیش کرےگا۔	ریشن کی تغییلات CDC کے قواعد د ضوابط کے مطابق اپ او فوجوں وہ ارم کے ساتھ بیش کی جا کیں گا۔ پر اسمی AGM کے وقت اپنااصل C	،ولڈریاذیلی اکاؤنٹ ہولڈرجن کی رجنہ CNI کی تصدیق شدہ کا بیاں پرانسی فا	ہ) انفرادی صورت میں ، اکاؤنٹ ؛ 1) اصل مالکان اور پراکسی کے IC
	ایجنڈا استفرنمبر 3 کی قرارداد	بلت 2017 سے سیکشن 72 کی دفعات پڑھل کرنے کیلئے ان کے جاری کردہ فزیکل ٹیئر زکو	نه 26 مارچ 2021 کے ذریعے لیوڈ کمپنیوں کومشور و دیا ہے کہ کمپنیزا ا	-CSD/ED/Misc/2016 مورة	ی ثیئر ذکی بک انٹری فارم میں تیدیلی: ی ی کی نے اپنے لیفرنسر 640-639،
الياتورين المي قراروادول كولطور خاص منتوركرنا-	وهندية المسائدة المراكبة المسائدة المائدة المسائدة المسا	ے جلدار جلد کیا۔ افزی فادم جس تبدال آبریں یہ کا ذکا انس اکا کا بند کو لگا اور اجدا اوال رابط کر کتابے ہیں۔ بیشنز مولڈ داکو گی طریقوں سے مولٹ قرائم کرسے گا جس بیل حصص کی	بنز مولدرز ، ورخواست كى جانى بيك وه اسيخ ينترز كوفر يكل فارم.	ل <i>يوانسينز مرتبلايتس رڪين</i> والي مان سيڪتا	انترى فارم مين تبديل كرين فيزيكل فوا
ہی ہے میٹن کے صفس رکھنے والے کونقدیا دوہری صورت میں آنائل ادا یکی منافع منقسمہ ہے۔ کیفی سے آرفیکا	آر تكل 2 محرات: (21) " إي ياية " كاسطلب ب ايك ، ان آر فيكل اورا كيك عرفت وقا فو قاجاري كردوتو الدوضواط محسطال كيف محسافي ا	رارے دابط کر علتے ہیں۔	ال بین رمز بدمعلومات اور معاونت کیکینی شیم بولدُور به ارت شیم رجنا ما مور براکیشرانک و و محل کی بهوات اور پیمال بیلٹ مے و رسیع و و محل	در کارر می کارر وائیول سے گریز وغیرہ ش	وتحويل، وليكيد حصص كاجراء كيك
er general programmer. General programmer general gen Gwent Grand (1988) in de general	ئين آرايم سے عملق مزيد تصيدات بيلي بن 01 جون 2023 كم اى او بى ايم كرد لس شرع شائع ہو بكى ہیں۔ آرگيل ، 21 تصویمی احتيارات:	ایڈ ایکی کیشن آف پاکتان ("SECP" کے ذریعے جاری کیا گیا ہے) کے مطابق،	ئنو") مِنْ رَبِيم شده نوفيَّكِيشْ بتاريِّ 65 دِمبر 2022، جوكسيكيو ديُّم ت كـ دريية ووت وسية كاحق فراجم كري اودگيران كو بذريد واك	ل بيلث) ريكوليشنز ، 2018 ("ريكولية	مولدرز کومطلع کیاجاتا ہے کیکینیز (پوطل SE نقام ادار ماریک دار ساکی میک
and the Arma Market and are a self-and a shell of a	آر مُثِلَ 120 كَوْرِ مِعِي عَلَى أَرُورِ مُونِي القيارات إوران آريكل كروْر فيع هذا كردود يكرا فقيارات كرماته بالتعسب تاجم المين واضح طور براهان كياجا تا ب كدؤائر كيفرز كورج في القيارات عاصل بول كه:	AGMon میں کمٹن المیٹل کے شیئر جولڈرز کوالیٹرا کب ووٹک کی بہولت کے ذریعے ووٹ کا	معرات، 26 اكتوبر 2023 كوسي 11:00 بيكم معقد موت واليا تركو	فط من مشروط اور تفاضوں کے مطابق ج	مع مطابق ، ندكور وضوالط مين موجود شرا أ
یا جائداد کی مرمت، بہتری، توسیع اور برقر اور کھنے کیلئے اور اس طرح کے دیگر مقاصد کیلئے (ہمول وہ مقاصد	(34) کمٹنی کر قرم کے منافع میں ہے کی کھی ڈویڈ فرک مارٹ کرنے ہے جیدا میں اسب مجیس فرمود کی سے افران کی ادا بھی سے لیے اضاحی ڈویڈ کا کی اور پڑھ کو را برا رہے کہ لیے ، پایوس شیز زجاری کرنے سے لیے ایکٹوی کی کا کھی		ڈاکون اوڈ کرنے کے لیے ممینی کی دیب سائٹ <u>ww.gtr.com.pk</u>	لولس بذاك ساتھ مسلك كيا تميا ہے اور	· Kay by G.
یکادی کرتے سے لیے جواس طرخ الک رفتی کی ہویا اس شن سے ای اردو مردا پیکاری لو جائے جو کدو دمانا سیح و بدا دورا کیے مقامہ کسیلتے جیسے ڈائز کیشر ڈراہ جی محل صوابہ بذیش میکنی کے مفاوات کسیلے ساڑ کار تھتے ہیں	آریکل خراکا کیا ہے) جیسا کرڈا از کیکٹر آرا فیکٹر کی مواد پیٹری، کمبنی کے مفادات کے لیے سازگار تھے تیل ادارا تی و قرائ بر رخ کا بر باریکاری سے مثما اوراس تیل فرق کرنا اور کمپنی کے فائد ہے کے اس سے تمام یاک بھی مصری تھوٹو	وبال فبرراوراي مل الدراس مينى كمبران كرجش 18 اكترر 2023 كوكاروباركا	کے ذریعے ٹیمزکی جا کیں گی جن کے پاس اسپے درست CNIC فمبرہ	ن شیئر ہولڈرز کے ساتھ ایک ای میل	ر <b>وٹک کا طریقتہ کار:</b> دوٹک کی سبوات کی تفصیلات کمپنی کے الا اور سے تفلید ساتا کی سبولات میں
ن کے سرماے کا بیج طور پراطلاق موسل ہے یا خرج کیا کیا اور دیوروفند کو کیے مصوصی فنڈ زیس سیم مرماج ای خریداری یا اوالیکل میں اور میرکہ آے دیگرا فالوں ہے الگ دیکھنے کے پابٹر کیے بیٹیرا وراس پر سودا واکر نے	معاملات جن بر فائز کیشرز از گوبور نے ہیں یا جن بر وہ وی فرج کرتے ہیں یا اس کا کوئی حضہ وہ معاملات ہو تکے ہیں یا تن پر ہنگو مسجمین اور کیفی سے کاروبار بی فرمودگی کے فنز زمسیت تکورہ بانا تمام یا کسی فنڈز پرمشمل افا فول کو طاومت و بنایا	بفراہم کندہ) کے ویب پونگ ہے SMS کے در میداداکین کوبتائے جا کی گے۔	سیکیورٹی کوؤزی ڈی کا ٹیئیز رجنز اوسرومز کمیٹنڈ (بطورای وونگ سروز سیکیورٹی کوؤزی دی کا ایس کا ایس کا ایس کا کا ایس کا کا ایس کا	چهای میل اداکین کوفرانهم کی جا کیں گی	ام ہے قبل دستیاب ہوں گے۔ ۔ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، بذر بو بھی سے میں میں میں مدر از میں م
وس <b>يخ سكتابي هو فالمراشوات من سين المساور الم</b> ارية والمراقع المارية المارية والمساورة المارية والمساورة المارية و المساورة المارية المارية والمساورة المارية والمارية والمارية والمارية المارية والمارية والمارية والمارية والمارية	طاقت كرماتي برماتي والريكز (كومان كي صوايديدي الرماري كفتا و كيمود كرية ندكوا كي الرحوال برادا كرف يا جازت و 7 توكل 14 ومود كالرمانية كالرمانية :	الدوران كى بحى وقت اپنادوت ڈال سكتے ہیں۔ ايك باركى قرار داد پرووٹ ڈالئے كے بعد	شرا كان دخوط يالاگ ان ك ليوقعد لين كي در يع كا جائية گا- اكتوبر 2023 كوشام 5:00 بيج بند مول كي بثيتر مولار داس مدت -	):09 بجے سے شروع ہوں گی اور 25 ا	وونگ لائنیں 20 اکتوبر 2023 صح 00
اقع کا حصہ بیننے وائی کی بھی قم کومر مایکاری کرنا مناسب ہےاور ڈیویڈ فیلیلئے دستیاب ہو، یا سی کے سی سی آقع کا حصہ بیننے وائی کی بھی اس کا میں اس کے حصہ میں	ڈائز کیٹو کری می وقت اور وقافہ فاگا ایک قرانداد یاس کرسکت میں کرکٹن کے ریز دریار زروفٹریا کئی کے ماقعہ شما موجود فیر منظم منا اجرار کمیلنز بریمبر کے در سے موصول اور نے والیا کو ڈائن رقم کئی کے بوٹن صعمی جھس مائر تکلیلس کی اوا کھی ام ماری	Control El Brance Con Provide Con	and the second of the second o		ر تبدیل کرنے کی اجازت تیں ہوگی۔ ب پیلٹ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کا طریقہ س پیلٹ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کا طریقہ
ن رم یارده م کا طلاق کری ہے اور اس طرح کے بوش منسل یا شوعیت یاد جبر کو چی ہے میں ہولارو کو	بولا تک کے مطابق مناسب القیم کرنا میابسورت دیگرایس رقوم کا سودا کریں جو ندکورو قراردادیس مطیمیا گیاہے۔ جال اس طرح کا	کے دجنر ڈالیے دلیں H-23/2 اوٹھ کا اعرض کی ٹرٹی ٹی کسے اسٹیٹ ، الاٹھ کی مرکز کی پرڈاک اکار مال کریں سیاط جبیر پردھنوا CNIC کے دھنوا سے مماثل ہوں گے۔	ا کی کا لی کے ساتھ مل طریقے سے جرے اور و سخط متدہ بیت ہیں ہیں۔ khawer@gentipak.com پرای مکل کے ذریقے مکنی سکر شرک	پیوٹرائز ڈقوی شاحی کارڈ (CNIC). ر 2023 کو AGM سے ایک دن قبل	ر وولڈرز اس بات کو بیٹی بنا میں کے کہ م در میع یا ایا م کار کے دوران 25 اکتوبر
ی تقلیم کے سلسلے میں کوئی دشواری چین آئی ہے، ڈائز یکٹرزوہی حل کر سکتے ہیں جیسا کدوہ مناسب بھتے ہیں اور ف	خداد رالا المرخ مقردك عمل عبداكدة الزيكروك ليمودول اورمناسب مجين بصف يح مح مى مولاردكور وي ولن صفى ا		· ·	، <b>کی شرط:</b> شده ای میل اور سوبائل نمبرا <sub>سی</sub> نه فزیکل	میل ایدریس اورموبائل تمبرشال کرتے ران سے استدعاہ کردہ اپنے اپڈیٹ
ی تقسیم سے سلط میں کوئی رشواری چیش آئی ہے۔ ڈوئر یکٹر زوق مگل کرسکتے ہیں جیسا کہ دومنا سب بھیتے ہیں اور ڈ تعمل یا شوبکایٹ کیلئے نقدادا منگی کرسکتے ہیں۔۔	بنیاد پران طرح مقرر کیا تھیا ہے۔ مورکل نے دوروں میں اور اور کی اور کیٹرز کے لیے موزوں اور مناسب جھیں بصف کے کی تھی موالدوز کو بڑو وکی اور صفعی م مورکل نے دوروں میں دیکا ہ	يشراكاؤن سرومز كرماته اليشراكك شكل عن موجودهم كيلية ورج كرائي-	,		وعرى رشد ومرافع متقسم اور يوتس تصفين
ی تقسیم کے سلط میں کوئی رشواری چیش آئی ہے۔ وائر یکم فرد وی حل کرسکتے جیں جیسا کیدو مناسب بھتے جیں اور ہ تعملی شہلان کیلئے نقدادا منگی کرسکتے ہیں۔	بنیاد پراس طرح مقرز کیا گیا ہے جیدیا کرڈ اگر کیکٹوڑ کے لیے موڈ ول اور مناسب جمیس کھمنٹ کے کی تھی بولڈ رڈ کو تر دی بولس تصفی " اکر تکل در 143 ریز روفٹنڈ ڈائر کیکٹر زم کی گئی ڈیل بیڈ ڈی سٹار کرنے سے قبل کیٹنی کے منافع میں سے ایک رقوم کو الگ کر سکتے ہیں جوہ ومناسب جمیس اطور م مقدر کیلئے جس کیلیا تھی کے منافع کا تکی طور پا طاق کیا جا سک بودا دو اس طرح کی ورخواست زیرا اتو او بود کئی ہے،	ينزاكا وَنف مروم كما تحداليشراك عنظل ش موجودهس كيليفورة كرائي . بتر مرارم ومرالميند و كى باوس ، 99- لي، بالك- لي، S.M.C.H.S، مين شاهراه	در انبین مشوره دیا جاتا ہے کدوہ الدست تیم تر درجر ارمیسرزی فی ک	بيغراورا بإبونس شيئرز كادعوى نبيس كريج	ز ہولڈرز ، جو کسی بھی وجہ سے اسینے ڈیویڈ
ی قسیم کے سلط عن کوئی رخواری چی آئی ہے۔ وائز یکٹر او دی گل کرستانتے چیں جیسا کدوہ مناسب بھتے ہیں اورہ صعب یا شوقایہ نے کیلئے نقدا واشکر کی صوابہ یہ یہ بہنا کی مالات کو پورا کرنے کیلئے یا ڈیل ٹیڈ کو برائر کرنے کیلئے لاگوہ پر بہا تو مجنی کے کا دوبار شی طاورت کی جاسمتی ہے یا انکی سرطانے کا دی شمی سرطانےکا دی کی جاسمتی ہے جیسا کہ لیکن مجمی نصصے کاسر بار کا ری بالصورت دیگر تشمیم کیلئے دشترات ہے اور اس کے مطابق النگی آئی محمد ان ایش مشترات	بنیاد پراس طرح مقر ترایا گیا ہے جیسا کرڈائز کیٹرز کے لیے موز وال اور مناسب جمیس بھنٹ کے کا محی اولار دو آئز دی اول مقطمی ہے۔ **آرگیل 143 رپر دولٹن: ﴿ اَرْ مَکْ اُرْ اِیکُ مِنْ اُنْ اِیڈ کِیڈ کُی سال کی اور اس طرح کی اور خواست زیرالتو اور ہوگئی ہے۔ انسی موالد یو متعدر کیلئے جس کیلئے گئی کے منافع کا محمل کے خاور پراطاق آئیا ہوا سات اور اس طرح کی دوخواست زیرالتو اور ہوگئی ہے۔ انسی موالد یو ایک	بترر جىز ادىرەموللىيىڭدى قەلى كەپ ياكاس، 99-لى، ياكەپ ئى، S.M.C.H.S، شىن شاپراە	ر، انبیں مشورہ ویا جاتا ہے کدہ ہادارے شیئر قروجشراد مصروی ڈی گی ۔ حاصل کرنے کیلئے (اگر کوئی ہوق ) سے رابلہ کریں۔	زیر اور ایونس شیرز کا دعوی میس کر سکا یابونس حصص کے بارے میں معلومات	ر ہولڈرز ، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈ ل، کراچی سے اپنے غیرشدہ منافع اور <sup>ا</sup> ، دور فریڈ عدد ہور
ی قسیم کے سلط میں کوئی رخواری چی آئی ہے۔ اوا کر یکرار وہ کا کر سکتے ہیں جیسا کہ دو مناسب تھے ہیں اور ذ تعمل یا خوالی نے کیلے نقداد انگی کر سکتے ہیں۔ ریز یا او تعمق کے کا دوبار میں ماد زمت کی جاسکتی ہے یا ایک سربا بیکا دی شمسرما بیکا دی کا جاسکتی ہے جیسا کر ریم بی تھے کا سربا بیکا دی یا بصورت دیگر تشتیم کیلئے دشتیا ہے اور اس کے مطابق الکی آئی تھی جائے والے اس کے مطابق ریم بھی تھے کا سربا بیکا دی یا بصورت دیگر تشتیم کیلئے دشتیا ہے جا دوراس کے مطابق اللی اللی فرام عمران شکی تشتیم	بنیاد پراس طرح مقر کیا گیا ہے جدیا کہ ڈائز کیکٹوڑ کے لیے موز وال اور مناسب جمیس بھسم کے کی تھی اولار وَ آوج وی بولس تھمی۔ آر کیل 143 دین دولانڈ ڈائز کیکٹوڑ کی گئی ڈی بیڈ ڈی ک رائے کی گئی کے منافی ش سے اسک رقو کو انگر کرنے ہیں جودہ مناسب جمیس ابطور در مقدر کہلے جس کہلے گئی کے منافع کا محق طور پر اطاق تی کیا جاسکا ہوں اور اس طرح کی دوخواست زیر التو او بیوکی ہے، اسک منابد ید ا کیکٹ کی دفعات کے مطابق مناسب جمیس ۔ ارشکل 155 منافع کا مرابط مال کی کے طور پر اطاق تی کیا جاسکا ہوں اور اس طرح کے دور کی اس کر کیا ہے اور کہا گئی در دوا کا وقت یا اوالی قبل اس کر کیا ہے اور کہا گؤر در والو کو تا ہے گئی ہے گئی کہا تھی کہا گئی حساب کر کیا ہے گئی انظار آم امنافع کے جاسک کی بیٹ کی بیاس کر کیا ہے گئی اور کیا دورای تناسب میں تقدیم کے جاسک میں اس کر کیا ہے گئی اور ان انگی انتر شر	بترر جغرار مرومر لمينار ، مي ذي مي باوس ، 99- لي ، باك- لي ، S.M.C.H.S ، شين شاجراه من المراجع الم	ی انبیں مشورہ و یا جا ہے کہ وہ اہارے ٹیئر زوجشرار مصررتی ڈگی گئ حاصل کرنے کیلئے (اگر کوئی ہوتو) سے رابطہ کریں۔ رکی دوں نے خیارے و الکشرائے میں کس الدے زادہ اسے الماثیم	زیژاو/ یا پوکس شیئرز کا دعوی قبیس کر سکتا پارنس جصص کے بارے بیس معلومات دانتہ ساک کے دو کمیٹنز کا جسب سے معلم سکتا	ر ہولڈرز ،جو کسی بھی ہجہ سے اسپے ڈیو یلے ل، کراچی سے اسپے غیر شدہ منافع اور آر <b>ڈیو پلے طامینڈیٹ</b> در کسی میں میں سیکشنے دور کے مدا
ی قسیم کے سلط میں کوئی رخواری چی آئی ہے۔ وائر یکم فرد ہی گل کرسکتے ہیں جیسا کہ دو مناسب تھے ہیں اور ذ خصص یا خوقا یہ کیکے نقد اوا کیکی اس اور بھی ہی جائے ہی مالات کو چود کرنے کیلئے یا ڈیو پارٹر کے کیلئے لاگو: ریز یا تو محق کے کا دوبار میں مالات میں مالات کے جائے ہے یا ایک سربا بیکا دی شمسرما بیکا دی کی جاسکتی ہے جیسا ک ریک بھی جھے کا سربا بیکا دی یا بصورت دیگر تشتیم کیلئے دشتا ہے جاوراس کے مطابق التی آئی تم میران شن تشتیم ایک بھی جے تاہم اس کا اطلاق اوا میکی میں یا اوا تیکی سربا ہے اوراس کے مطابق التی آئی تم میران شن تشتیم ایک اس طرح کی قرار داد کو کا فذکر کے گ	نیاد پاس طرح مقر ترایا گیا ہے جیدیا کہ ڈاکر کیٹوڑ کے لیے موز وال ورمنا سب جمیس بھسم کے کو کی جوالد رو آوج دی بول مقسمی ہے اس کا اور کو اللہ کا اس کے بعد اللہ کا اس کے بعد اللہ کو اللہ کر بھتے ہیں جو و منا سب جمیس الطور اللہ کا کا اور کیٹوڑ کی سال کے بھر کیا گئے گئے کے منافع کا محمل کا محمل کے بھر کا اللہ کا کی طور کیا گئے گئے کے منافع کا محمل کا محمل کی دو خواست زیرالتو او بدو کتی ہے الدی موالد ید الدی موالد ید الدی موالد ید اللہ کی دو خواست زیرالتو او بدو کتی ہے الدی موالد ید الدی موالد ید الدی موالد ید الدی موالد یک الدی دو است زیرالتو اور بھر کا موالد ید الدی موالد یک کا موالد یک الدی دو است کر کئے ہیں کہ کئی کہ میں دیر دو اکا وائن یا بال آن صاب سے کر بھرے کہا کہ اور کی جا کہ بارائی کی موالد کیا ہو گئے گئے اور کیا ہو کہا کہ کہ کہا ہو کہا کہ کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا کہا کہ کہا ہو کہا کہ کہا کہ	بتررجفر ادمر دمر لمدیند و ی ی با کاس و 99-لید، با کست لید S.M.C.H.S، پین شاہراه بروندرز کے نامزوکر دوریک اکا وزی میں آوا مینگی کی جائے گی اربدا اور کورویک اور سے و دریعے، سسٹم میں اپ ویٹ کر اکس و اور نکل شیئرز کی صورت میں، حاریث میٹر زجفر اور میسرزی و ی کسی می رہنا تی سے بیئے کیلئے براوکرم جلداز جلدا تی آئندیا سے کی اپ و یہ کو کینٹی انا کیس	ر، البین مشوره و یا جا اے کره دادارے شیئر زوجشراد مصرزی و کی تی آ حاصل کرنے کیلئے (اگر کو کی ہوق ) سے راابلہ کریں۔ وائی کی دیو پیڈ خرکاس رف ایکٹرا تک مود کے ذریعے نماہ راست اللی شیئر کے نمبر (BAN)) در تفصیلات متعالمۃ شرکاء کے ذریعے مشعرل فو یا زنرگی کا بین شاہراہ فیل ایم کی چیک اکا کونٹ کی تصیالات فراہم کریں	یظ اور آیا بوئن شیئر زکا دو کو بیس کرسکا پایونس صصص کے بارے میں معلومات بالق، بیکا کے طور میٹن کی صورے میں، کم بے کہ دوائے بیش الاقوا کی بینکے اکا کا خرف بی ، B-99 بااک B-99،	ز بولذرز ، جرکی بحق بعید سیاسید ذایی فی ل مراری سے اپنے فیر شدہ صافع ادرار فی <b>بید شدینشد</b> بڑا کیف 247ء کیسیکٹن 242 سے مطا شیشتر مولارز سے درخواست کی جاتی شیشتر میشار در مورالمیلڈری ڈی می کام کام
ی قسیم کے سلط میں کوئی رخواری چین آئی ہے۔ وائز یکم فرودی کل کرسکتے ہیں جیسا کہ دو مناسب بھتے ہیں اور ذ خصص یا شوقائید نے کیلے نقداد انگی کرسکتے ہیں۔ ریر رواز خانز بھی کا روبار بھی ماوند مت کی جائے تھی سالات کو چون کرنے کیلئے یاؤیل پلیڈ کو برا برکرنے کیلئے لاگو، ریر یا او تعلق کے کا روبار بھی ماوند مت کی جائے تھی ہے باانکی سرمائے کا رک بھی سرمائے کا رک کا جائے ہے جیسا کہ ایک بھی جھے کا سرمائے کا واطلاق اوا بھی تھی بیا اور ایک سے حاوراس کے مطابق الی آئی آئی مجمیران میں تھیے۔ ایک اس طرح کی آئر اور اوکو افذ کر کے گے۔ وہ سالانہ مالیاتی صابات ") اور دام ام اجاموں کے لوٹس و قیرو کی ایس آئی او بھر روک (1) 2023 مورد در 12 ما	بنیاد پاس طرح مقر کیا گیا ہے جیدا کہ ڈائز کیفرز کے لیے موز وں اور مناسب جمیس بھسم کے کہ کی بولار دو گرج دو ہوس تھمی۔  آر گیل 143 ریز دولاند:  ڈائز کیفرز کی ڈائو بلیڈ کی سفار آر کے سے قبل کیٹن کے منافی ش سے ایس رقو ہوا دائل کر سکتے ہیں جو وہ مناسب جمیس ابطور در مقد کہلیے جس کہلیے گئی کے منافی کا کہا ہو اور اس طرح کی دوخواست زیرا انوا وہ ہوگئی ہے ، ایک معالم دید  ایک کی دوخواست زیرا انوا میں ماسب جمیس ۔  آر گیل 155 معالی کا مراب کیا گئی طور پر اطال آن کیا جا سکا ہو، اور اس طرح کی دوخواست زیرا انوا وہ ہوگئی ہے ، ایک معالم دید  آر گیل 155 معالی کا مراب کیا گئی ہے ہو کہ کہ بھی ریز دوا کا ذش بیابا آن صاب کے کر بھرے کہلیے ٹی افحال قرار مان فی کے جا سے جو اس کے حوال کی اور ان کے انتقاد بھی تعلیم کے جا کہی ، اس شرح کے کہا ہو گئی اور گئی ہو گئی دور کے اور ان کے بائین کمل طور پر اوا کے جانے کے طور پر کر لیے نے کیا جا ہے گا ، اور گئی میں کے خوال کے اور کے دور دور خوال کے جانے کیا ہو ان کیا گئی اور گئی دور دور خوال کے دور کے دور دور خوال کے دائر کی دور دیں دور تا کہ اس کر کے کہا ہو کہا گئی تھر کیا گئی کے دور کیا گئی کہا کہا کہ کہا دور کیا دور کا دور کیا دور کے دور دور خواست کر کار دیا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کار کر دیا کہ کہا کہ کہا کہا کہا کہ کہا گئی کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہا	بتررجفر ادمر دمر لمدیند و ی ی با کاس و 99-لید، با کست لید S.M.C.H.S، پین شاہراه بروندرز کے نامزوکر دوریک اکا وزی میں آوا مینگی کی جائے گی اربدا اور کورویک اور سے و دریعے، سسٹم میں اپ ویٹ کر اکس و اور نکل شیئرز کی صورت میں، حاریث میٹر زجفر اور میسرزی و ی کسی می رہنا تی سے بیئے کیلئے براوکرم جلداز جلدا تی آئندیا سے کی اپ و یہ کو کینٹی انا کیس	ر، البین مشوره و یا جا اے کره دادارے شیئر زوجشراد مصرزی و کی تی آ حاصل کرنے کیلئے (اگر کو کی ہوق ) سے راابلہ کریں۔ وائی کی دیو پیڈ خرکاس رف ایکٹرا تک مود کے ذریعے نماہ راست اللی شیئر کے نمبر (BAN)) در تفصیلات متعالمۃ شرکاء کے ذریعے مشعرل فو یا زنرگی کا بین شاہراہ فیل ایم کی چیک اکا کونٹ کی تصیالات فراہم کریں	یظ اور آیا بوئن شیئر زکا دو کو بیس کرسکا پایونس صصص کے بارے میں معلومات بالق، بیکا کے طور میٹن کی صورے میں، کم بے کہ دوائے بیش الاقوا کی بینکے اکا کا خرف بی ، B-99 بااک B-99،	ز بولذرز ، جرکی بحق بعید سیاسید ذایی فی ل مراری سے اپنے فیر شدہ صافع ادرار فی <b>بید شدینشد</b> بڑا کیف 247ء کیسیکٹن 242 سے مطا شیشتر مولارز سے درخواست کی جاتی شیشتر میشار در مورالمیلڈری ڈی می کام کام
ی هیم کے سلط میں کوئی رخواری چی آئی ہے، وائر کیلزو ہی گل کرسکتے ہیں جیا کہ وہ مناسب بھتے ہیں اور فا صعب یا خوالیہ و کیلئے نقدا والمحکم کر کتا ہیں۔ ریر دیا و خوائز جو فوٹر کی دوبار شی طاز مت کی جائے ہے بالکی سربا یہ کار کی شرب را یہ کار کی جائے ہے جیسا کہ ریر دیا و خوائز کی کا دوبار شی طاز مت کی جائے ہے بالکی سربا یہ کار کی شرب را یہ کار کی کا جائے ہے جیسا کہ ایر کی جائے تاہم اس کا اطلاق اوا چی میں یا اوا چی کے لیے کیا جائے۔ الا مند اور تقدیم کیے جائے والے کوئی ایر کی جائے تاہم اس کا اطلاق اوا چی میں یا اوا چی کے لیے کیا جائے۔ الامند اور تقدیم کیے جائے والے کوئی ایر مالا نہ مالیاتی صابات ") اور خام اجاز میں کے لوٹس و غیرہ کی ایس آن دو جس کر 201 (2023) (389 مورور 214) کی کے ور نے مطلق کم کا کم یا ہے کہ سال کا کار حد شردہ الریاتی کوشواروں کی تر تیل (20 کار کار 20 کار 20 کار 20 کار 20 کار	بنیاد پاس طرح مقر کیا گیا ہے جیسا کرڈائو کیٹوز کے لیے موزوں اور مناسب جمیس بھسم کے کہ کی ہولار دو گئر تروی ہوگی مقسمی۔  آدگی 143 رو کھڑ :  وائز کیٹوز کر کی گئی ڈیڈ کی سفار آر کے نے کی کھڑی کے منافع میں سے ایس وقو کو الگسار سکتے ہیں جوہ مناسب جمیس ایطور مقدر کیلئے جس کیلئے جس کیلئے جس کیلئے جس کیلئے کی منافع کی طور پر اطال آن کیا جا سک اور اور اس طرح کی ورخواست زیرا انوا وہ ہوگئی ہے۔  ایک من دفعات کے مطابق مناسب جمیس ۔  آدگیل 155 منافع کا مربا بیادی مناسب جمیس ۔  آدگیل 155 منافع کا مربا بیادی مناسب جمیس ۔  آدگیل 155 منافع کا مربا بیادی مناسب جمیس کے باری مناسب میں تقییم کیے جا کی ورک کیلئے ٹی افال قرام امنافع کیا جا تھے ہیں کہ مقدار میں کہ کی میں میں مناسب میں تقدیم کیے جا کی ورک کرٹے کیا گئی اور گئی تقدیم کیا ہو گئی اور کی فار کے باری میں کہ کی میں کہ کیا ہو گئی اور کی تعدیم کے باری کر اور ک کی اور کی تعدیم کی مورک کر اور ک کی ورٹ وائر کیٹر درگی و بورٹ وائر کیٹر درگی و بورٹ وائر کیٹر کی ورٹ وائر کیٹر درگی و بورٹ وائر کیٹر کی ویورٹ وائر کیٹر درگی و بورٹ وائر کیٹر درگی و بورٹ وائر کیٹر کی ویورٹ وائر کیٹر کی کوئر کی اور ک باری میں اور کیٹر ویورٹ وائر کیٹر درگی و بورٹ ویٹر کیٹر کیٹر کیٹر کی کوٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کی	بترر جغرار مرومر لمينار ، مي ذي مي باوس ، 99- لي ، باك- لي ، S.M.C.H.S ، شين شاجراه من المراجع الم	ر، البین مشوره و یا جا اے کره دادارے شیئر زوجشراد مصرزی و کی تی آ حاصل کرنے کیلئے (اگر کو کی ہوق ) سے رااللہ کریں۔ وائی کی دیو پڑنے کی سرف ایکٹرا تک مواد کے ذریعے نماہ راست اللی شیئر کے نمبر (BAN)) در تفصیلات متعالہ شرکاء کے ذریعے مشعرل فواز کر کی . پی شین شاہراہ فیل ایک ایک ویک اکا کونٹ کی تصیال سے فراتم کریں	یڈ اورا یا اوٹن شیئرز ڈا ڈوئی فیمیس کرسٹا یا پڑش صصص کے بارے میں معلومات البق، بیکک اساقہ میٹنی کی صورت میں ، کم بے کرووا ہے بیٹی الاقوا کی بیٹک اکا ڈئر بی، B-99 بالک-B-18، الک B-19، مطابق البے شیئر بولڈرز جوجوا تک شیئر مطابق البے شیئر بولڈرز جوجوا تک شیئر	ز بولذرز ، جرکی بحق بعید سیاسید ذایی فی ل مراری سے اپنے فیر شدہ صافع ادرار فی <b>بید شدینشد</b> بڑا کیف 247ء کیسیکٹن 242 سے مطا شیشتر مولارز سے درخواست کی جاتی شیشتر میشار در مورالمیلڈری ڈی می کام کام
ی هیم کے سلط عن کونی رخواری چی آئی ہے، وائز یکر اور دی گل کرسکتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب بھتے ہیں اور فا صعب یا خوالیہ نے کیلے نقدا وائی کی کرسکتے ہیں۔ ریر دیا و خوائی سے کا روبار شیں طاومت کی جائی ہے بیا انسی سرمایے کار کی جائی ہے جیسا کہ ریر دیا و خوائی سے کا روبار شیں طاومت کی جائی ہے بیا انسی سرمایے کار کی جائی ہے جیسا کہ ریر کی جائے تاہم اس کا اطلاق اوا میگی شیں یا اوا چیل کے بائے کی سرمایے کار کی جائے والے کہ مقدان مالیاتی صابات " ) اور فائد کر کے گ و مالا نہ مالیاتی صابات " ) اور فائد کر کے گ ان کا ف باکستان نے اجازت دی ہے: ان کا ف باکستان نے اجازت دی ہے:	بنیاد پاس طرح مقر کیا گیا ہے جیسا کرڈائو کیٹوز کے لیے موزوں اور منا سب جمیس بھس کے کہ کی ہولار دو گاڑ دو کیا ہوگی مقص ہے۔  ار میکر ( کم کائی ڈید فیٹر کی سفار آگر کے نے قبل کیٹن کے مواقع میں سے ایک رقو کو اگلہ کر سکتے ہیں جوہ منا سب جمیس اطور رسو کا ایک کرنے ہیں ہوہ منا سب جمیس اطور معتمد کیا جس کی مواجد یہ میں مواجد یہ متعمد کیا جس کی اور است زیر التو او بود کی سے اسکی مواجد یہ اسکی مواجد یہ اسکی مواجد یہ اسکی مواجد یہ اور کی دو فواست زیر التو اور موکن مواجد یہ اسکی مواجد یہ اور کی دو فواست زیر التو اور موکن مواجد یہ اسکی مواجد یہ اور کی اور کیٹر زروا فو گا مربیا گا کی مواجد یہ اور کیٹر فروز دو افوافر کا مربیا کی کام میں مواجد یہ اس کے موجد یہ کہ کہ کی در دو اکا واقع کی مواجد یہ کہ کہ اور کیا ہو کہ کہ اور کیٹر زروا فو گا میں مولی کر اور کی دو اس کے مواجد یہ کہ کہ اور کیٹر کر دو اور کہ کہ اور کیٹر اور کہ کہ اور کیٹر اور کہ کہ اور کیٹر اور کی دو اس کے مواجد کی دو کہ	بررجفر ادمر در لميند ، ى فى ى بادى ، 99- بى ، باك- بى ، كاسر ، كاسر برلد رو كاسر وكر دو دويك اكاون مى ادا تنكى باك باك بالدار فدار فوش كه دريد، سلم مى اب في يدك كر مي فرويكل شير و كامورت من ، عاد ميشر ترجفر اد ميسروى فى كى كى اب يانى سے نيج كيليے براء كرم جلدا و جلد الى انتى است كا اب في يك الي تاكم على من المرائع كى دهيت برولد راور جوائد في شير بولد رو كم كليتى شير و كر تاسب سے "فاكر الى ان فاكر" كى دهيت جودشير و كى تعداد كى تاسب سے برسل شير بولد راور جوائحت شير بولد روز كى كاسب الله بولد روز كى كاسب الله بولد روز كى كاسب ب	ی البین مشوره و یا با اسب کرده الداریشیئر زوجشرا دیسرزی و کی گی آ حاصل کرنے کیلئے (اگر کو کی بوق) سے راابلد کریں۔ دیس کی بالے فائے کی سرف البیشرا کیا سرف کر در لیے نماد راست المبلی شیئر کی بمین شاہراہ فیسل برائی کی ویک اکا کونٹ کی تصیال است فراہم کریں برولڈ تک کے بالک بین ادان کے شیئر زیرودہ ولڈ نگ کا تین ریسل شیئر رکھنے والے لئم المیشر برولڈرز سے گڑا دارش ہے کروہ والڈ نگ کا تعین ریسل شیئر	یظ اورا یا بونس شیر زا دا دو کی جیس کر سکا یا پونس صص سک بارے میں معلومات باتن ، پیک سافڈ کیننی کی صورت میں ، کو بے کدووالے بین الاقوا می بینک اکا وشر بین و B-99 میا السے M.C.H.S.B - بیا ک مطابق الیے شیم بولڈرز جرجوا تک شیم این جوانک شیم بولڈرز جرجوا تک شیم این جوانک شیم بولڈرز جرجوا تک شیم آخرین طور پرفرائم کریں:	ر بولڈرز ، جرکی مجی اجدے اپنے ڈی یا ان کرائی سے اپنے فیر شدہ مثان اور ار بڑا کمٹ 2017 کے بیکٹن 242 کے مطا مشتر بولڈور نے در خواست کی جاتی ہے بیکٹر ر جشر اسر ومز کمیٹر ی ڈی تا کا کہا گا برل بود ڈ آف ریونیوی و شاخت سے م برل بود ڈ آف ریونیوی و شاخت سے م بر میٹور وجو ارادور بی ڈی اس سلسلے میں ار میٹور وجو ارادور بی ڈیل کے مطابق
کی هیم کے سلط عن کوئی رخواری چی آئی ہے، وائر کیلزوی کال کست چی جیسا کہ وہ مناسب بیضتے ہیں اور خا صعبی یا موقایہ و کیلئے نقدا و شکل کستا ہیں۔ ریز یا تو مجنی کے کا روبار شی طاورت کی جا سکتی ہے یا ایک سر با بیکا ری شرس با بیکا ری کا جا ساتی ہے جیسا کہ نے ریز یا تو مجنی کے کا روبار شیل طاورت کی جا سکتی ہے یا ایک سر با بیکا ری شرس با بیکا ری کا جا ساتی ہے جیسا کہ نے ریز کی مجنی محصے کا سر با بیکا ری یا بصورت دیگر تشتیم کیلئے دشتی ہے جا در ان کے مطابق المی قرام مران شیش تشتیم ریز کی تاہم اس کیا اطلاق اوا چیکی شیل یا اوا شیک کے کیا جائے ۔ اللا شد اور تشتیم کے جانے والے کہ بیک اس طرح کی تر ارواد کو فاؤند کر کے گا۔ ان آف بیا کستان نے اجازت دی ہے۔ ان آف بیا کستان نے اجازت دی ہے۔ ان آف بیا کستان نے اجازت دی ہے۔ ان اس کے جانے کے سال میں کا دھ شرو وہ ایک تی گرشواروں کی ترسل CD ( CD ) کے ایک اس کے لیے جائے اس کا دی سات دی کیا اختیا ہے بیا گئی گئے جہالے ت	بنیاد پاس طرح مقر کیا گیا ہے جیسا کہ ڈائز کیٹوز کے لیے موزوں اور منا سب جھیں بھس کے کہ کی ہولار دو گرج دی بول مقسمیت کا دیگی۔ 143 رپر دو لئٹ:  ڈائز کیٹر زبر گائی ڈیڈ فیٹر کی سفار آگر نے سے قبل کیٹن کے منافع میں سے ایک رقو مارک کر تھے ہیں جوہ منا سب جھیں اطور مستحد کیا جو کی سفار کی کا مربا کیا گئی کے منافع کا محکوم طور پا طاق آئی با جا سکا ہوں اور اس طرح کی دوخواست زیر التو اور ہوگئی ہے اسک موالد یہ اور کی دوخواست زیر التو اور ہوگئی ہے اسک موالد یہ کا رقابو کا مربا کا کا مربا کا کوٹر کا مربا کا مربا کا کوٹر کا مربا کی اور انگل کے کوٹر کوٹر کی اور موٹر کی کا مربا کی اور انگل کی تعقیم کے جا تھی ان اس کے مولد پر کر اور کی کوٹر کی اور موٹر کی اور موٹر کی کا دور کے دور کے دور کوٹر کی دور کے دور کی دور کوٹر کی دور کے دور کی دور کوٹر کی دور کے دور کوٹر کی دور کے دور کوٹر کی دور کوٹر کیٹر کی دور کوٹر کیٹر کیٹر کیٹر کی دور کوٹر کیٹر کوٹر کوٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کوٹر کیٹر کوٹر کوٹر کیٹر کوٹر کیٹر کوٹر کوٹر کوٹر کیٹر کوٹر کیٹر کوٹر کیٹر کیٹر کیٹر کوٹر کیٹر کوٹر کیٹر کوٹر کیٹر کیٹر کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کیٹر کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کو	بررجفر ادمر در لميند ، ى فى ى بادى ، 99- بى ، باك- بى ، كاسر ، كاسر برلد رو كاسر وكر دو دويك اكاون مى ادا تنكى باك باك بالدار فدار فوش كه دريد، سلم مى اب في يدك كر مي فرويكل شير و كامورت من ، عاد ميشر ترجفر اد ميسروى فى كى كى اب يانى سے نيج كيليے براء كرم جلدا و جلد الى انتى است كا اب في يك الي تاكم على من المرائع كى دهيت برولد راور جوائد في شير بولد رو كم كليتى شير و كر تاسب سے "فاكر الى ان فاكر" كى دهيت جودشير و كى تعداد كى تاسب سے برسل شير بولد راور جوائحت شير بولد روز كى كاسب الله بولد روز كى كاسب الله بولد روز كى كاسب ب	ی البین مشوره و یا جا تا ب کرده ادار سینیم زوجشرا دیسرزی و کی تی آن حاصل کرنے کیلئے (اگر کو کی بوق ) سے راابلد کریں۔ یہ میر (BAN) اور تصیار میں متعالمہ شرکاء سے و ریسیے مندل و پازٹری یہ میں شاہراہ بھیل مرکز کی کو بینک اکا کو شدکی تصیار سے فراہم کریں جولا تک کے مالک بین مان سے شیئر زیروہ ولا ٹھی آتھیں پر ٹسما شیخ رکھتے والے تمام شیئر بولڈرز سے گزار ٹرے بدوہ ولڈ ٹھی آتھیں پر ٹسما شیخ	یظ اورا یا بونس شیر زا دا دو کی جیس کر سکا یا پونس صص سک بارے میں معلومات باتن ، پیک سافڈ کیننی کی صورت میں ، کو بے کدووالے بین الاقوا می بینک اکا وشر بین و B-99 میا السے M.C.H.S.B - بیا ک مطابق الیے شیم بولڈرز جرجوا تک شیم این جوانک شیم بولڈرز جرجوا تک شیم این جوانک شیم بولڈرز جرجوا تک شیم آخرین طور پرفرائم کریں:	ز بولڈرز ، جرکی بھی ہید سے اپنے ڈی یا فی میڈ میشر شف بڑا کمٹ 2017 کے بیکٹن 242 کے مطا شیئر روشر اور اور اور کا سال کے مال شیئر روشر اسر ومز کمبیٹر ہی ڈی تا کی جاتی مرق: مرق: میٹر روشر اور ویز کی واضا حت کے م میٹر روشر اور ورج ذار کو ورج ذار کو ورج ذار کو ورج دار کو ورج دار کو درج دار کو درج ذار کو درج دار کو درج دارکو ورج ذار کی مطابق
گاهیم کے سلط میں کوئی رخواری چی آئی ہے، وائر کیفرو وی گل کرستے ہیں جیسا کہ وہ مناسب بیٹھتے ہیں اور خا صعب یا جوہلی فریکی نے کیلئے نقدا وہ شکی کر سات ہیں۔ ریر ریا تو سمجنی کے کا رویا رشی طاوحت کی جاستی ہے با ایک سرما بیکا دی شرب رمایتی ایک جاستی ہے جیسا کہ اور کے سمجنی میں مصرح کا سرمایدیکا ری یا بصورت و میکر تشتیم کیلئے و حقیاب ہے اور اس کے مطابق الی قرقم عمر ان شکی ت میں نے کا ہم اس کا اطاف ق اوا بیکی شمی یا اوا تیکی کے لیے کیا جائے۔ اللاث اور تشتیم کیے جائے والے کہ افزار ان مالیاتی صابات ") اور ھام اطلاسوں کے توشی و تھیرہ کی الیس آمر او مبر 2023/(2021) میں کوئی و قیم وہ کی الیس آمر او مبر 2023/(2021) میں کا نقط کے ایک کی اس کے والے کہ اللاث کی تو اس کے اس کے والے کہ اللاث کی تو اس کے کہ اس کی کا رویا وہ کا میں کی تو سال کی کیا جائے گائے کہ کے بالے کہ کا سات کے ایک کی کا دوری کی ترسیل کے کہا گائے کہ کہا دوری کی ترسیل کے کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہا گائے کہ کے جائے گائے کہا کہا کہ کی کی کی کوئی اوری کی ترسیل کی کوئی اوری کی ترسیل کی کوئی اوری کی ترسیل کی کا نشان لگا کر متدرجہ ذیل قرار داوری میری کی اوری کی خوا موں کی ترسیل کی کا نشان لگا کر متدرجہ ذیل قرار داوری میری کی اوری کی خوا موسوں کی ایک کا نشان لگا کر متدرجہ ذیل قرار داوری میری کی اوری در ضامت کی ایک کا نشان لگا کر متدرجہ ذیل قرار داوری میری کی اوری درخوا معددی کیا اختیاف میں کا نشان لگا کر متدرجہ ذیل قرار داوری میری کی اوری درخوا معددی کا انتخاب میں کا مقال کیا تھی کی گیا گیا گیا گیا گیا گائے کیا گائے کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گائے کیا گلائے گیا	بنیاد پاس طرح مقر کیا گیا ہے جیسا کہ ڈاکر کیٹوز کے لیے موز ور اور منا سب جمیس بھس کے کہ کی ہوالد رو گئر ہوئی ہی تھی۔  آد گیل در ایک کر مقر کیا گیا ہے جیسا کہ ڈاکر کیٹوز کے لیے موز ور اور منا سب جمیس بھس کے کہ کی ہوالد رو گئر ہوئی۔  ڈائر کیٹر زب کی گئی ڈیو ٹیو ٹی سائر کرنے ہے گئی گئی کے منافع میں سے ایک رو خواست زیرا انوا اور ہوگئی ہے۔  ایک من دفعات کے مطابق منا سب جمیس المورد اور کی اور خواست زیرا انوا اور ہوئی ہے۔ ایک صوابد یو از کیٹر زور واقو فق کا مربا گال مناف کے کہ کئی رو دو اکاؤٹش یا الیا آن حساب کر ٹیٹ کیا گئی کا مربا گالی مقال آخر ارمان کی جائے گئی افال آخر امنافی کے بائر کی خوارد کیا گئی افتر کئی اور کئی تقدیم کے بائر کی مار کر گئی کہ کہ کی اور کا کا تاکہ کہا کہ	بررجفر ادمر در لميند ، ى فى ى بادى ، 99- بى ، باك- بى ، كاسر ، كاسر برلد رو كاسر وكر دو دويك اكاون مى ادا تنكى باك باك بالدار فدار فوش كه دريد، سلم مى اب في يدك كر مي فرويكل شير و كامورت من ، عاد ميشر ترجفر اد ميسروى فى كى كى اب يانى سے نيج كيليے براء كرم جلدا و جلد الى انتى است كا اب في يك الي تاكم على من المرائع كى دهيت برولد راور جوائد في شير بولد رو كم كليتى شير و كر تاسب سے "فاكر الى ان فاكر" كى دهيت جودشير و كى تعداد كى تاسب سے برسل شير بولد راور جوائحت شير بولد روز كى كاسب الله بولد روز كى كاسب الله بولد روز كى كاسب ب	ی البین مشوره و یا جا تا ب کرده ادار مشیئر زوجشرا دیسرزی و کی ت البین مشوره و یا جا تا ب کرده ادار مشیئر زوجشرا دیسر دی و کی ت البین مشیئر کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر	ره اورا یا بوتن شیرتر وا دوی جیس کرسیا یا بوتن صعص کے بارے میں معلومات باتق، پیک اساقہ مینی کی صورت میں ، کم بے کرووا ہے بیش الاقوا می پیک اکا وزیر بی جواب باک B-99، مطابق اسے شیمتر بولڈرز جوجوا تحث شیمتر میں جوائے میشتر بولڈرز جوجوا تحث شیمتر آگر میں طور پرفرا ہم کریں: کی شیمتر دیشتر اور ا	ر بولارز ، جری بھی ہید سے اپنے ذایے یا ل کرا پی سے اپنے فیر شدہ صافح اورا ڈاپی پیٹر میں 242 سیکٹن 242 سے کمب شیئر رمشر اور رمز المینز ، ڈی کی کہا گئے این روز ڈا آف ریز نیو کی وضاحت کے م رل بورڈ ڈا آف ریز نیو کی وضاحت کے م رل بورڈ ڈا آف ریز نیو کی وضاحت کے م را سے بیشر رمبر او کودر بن ڈیل کے مطابق را میشر رمبر او کودر بن ڈیل کے مطابق کا خاص مطابع اور بیشر کوئی کی کا کا کوئی کی کا مطابع اور بیشر کوئی کی کا کا کوئی کی کی کا مطابع اور بیشر کوئی کی کا کا کوئی کی کی کی کا کا کوئی کی
کی هیم کے سلط میں کوئی رخواری چی آئی ہے، وائر کیفرو وی گل کرتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب بیضتے ہیں اور فا صعبی یا موقیک نے کیلئے نقدا وا شکل کے ہیں۔ در رویا و خارج و ذائر کیفرز کی صوابہ یو پہ بھائی حالات کو پورا کرنے کیلئے یا تو بیڈ فرکو برابر کرنے کیلئے الا کوہ پر بیا تو مجنی کے کا دویا رشی طاورت کی جائے ہے با ایک سربا سے کادی شمی سربا سے کادی کی جائے ہے جیسا کہ فا کے کہ بھی مصلی کا رویا کو افوائد کی میں یا اوا تی کے لیے کیا جائے۔ اللاث اور تشخیم کے جائے والے کہ بی ایک حالے نا ہم اس کا طاق اوا بیگی میں یا اوا تی کے لیے کیا جائے۔ اللاث اور تشخیم کے جائے والے کہ بی ایک مرح کی آئر اور افواؤڈ کر کے گی۔ ان آف یا کہتا ان نے اور جا مواجہ اس کے لوٹس و قیم و کی ایس آئی و قبر و کی ایس آئی و قبر و کی ایس کی ایک مورید 21 مار کی کے در یعے مطلق کیا گیا ہے کہ سال دیا کا دیشرہ و ایل آئی کوشواروں کی ترسل CD اس کے مطابق انسان میں انسان کی استخداف مرح ہیں۔ کا طور جائے نے شن تک (مرب) کا فٹان ان اگا کر مندر بدور کی آئی اردواد پر میری اُر ادراد و رسیدی اِنسان میں گئی کی ہیں۔ (خلاف	بنیاد پاس طرح مقر کیا گیا ہے جیسا کہ ڈائز کیٹوز کے لیے موز ورا اور منا سب جھیس کے کہ کی ہولار و دُلا ہوں کہ اللہ دو گئا۔  از کیٹوز کر کی ڈائیڈ :  اڈر کیٹوز کی گئا ڈیڈ ڈیڈ کی سفار آکر نے سے تی کیٹن کے منافع شی سے ایک رقو اسٹ زیرالتوا او ہو گئی ہے اسکی موالد یہ متصر کیلئے جس کی کے منافع کا محتج طور پا طاق آن کیا جا سک اور اور اس طرح کی ورخواسٹ زیرالتوا او ہو گئی ہے اسکی موالد یہ اور کی دوخواسٹ زیرالتوا او ہو گئی ہے اسکی موالد یہ اور کی دوخواسٹ زیرالتوا او ہو گئی ہے اسکی موالد یہ اور کیٹوز دو گؤ اور کا مرسانی منافع کا مرسانی کی منافع کی مرسانی کا موالد یہ کا مرسانی کی امر کی اور کو اور کی اور کو کا مرسانی کی کا مرسانی کی کا مرسانی کی کا مرسانی کی اور کو اور کی اور کو کا مرسانی کی کا مرسانی کی کا دور کے اور کو کا اور کو کی کا مرسانی کی کا دور کی اور کو کا دور کی کا دور کے دور کی کا دور کی دور کی دور کی کا دور کی دور کی دور کی دور کی کا دور کی دور کے دور کی کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا گئا ہے کہ کا دور کی دور کیا گئا ہے کا دور کی دور کیا گیا ہے کا دور کی دور کی دور کی دور کیٹ کی دور کی دور کی دور کی کار دور کی کیا ہو سانی کی دور کی کیا گئا ہو کو کی دور کی کا دور کی کیا گئا ہو کی دور کیا گیا ہے کو آن کیا گیا ہے دور کی کیٹ کی دور کیا گیا ہے کا دور کیا گیا ہے دور کی کیٹ کیا گئا ہو کی دور کیا گیا ہو کی کو دور کیا گیا ہو کی کو دور کیا گیا ہے دور کی کیٹ کیا گئا ہو گئی کی دور کیا گیا ہو کی کو دور کی کیٹ کیا گئا ہو کی کو دور کیا گیا ہو کی کو دور کی کو دور کیا گیا ہو کی کو دور کیا گیا ہو کی کو دور کی کیا گئا ہو کی کو دور کی کو دور کیا گیا ہو کی کو دور کی کو دور کیا گیا ہو کی کو	برر جغر ادمر وسر لمييند ، ي فرى ي با كارت مي ، واك - لي ، واك - لي ، S.M.C.H.S ، ين شاهراه المين برجغر ادمر وسر لمييند ، ين شاهراه المين برجغر ادمر وسر المييند و من ادا تشكل والمين كي الميندا ، فدكار والوش كه و ديد المين	ی انجیس مشوره و دیا جا تا ہے کہ وہ ادارے شیئر زرجشر ارتبسرزی ڈی کی آت حاصل کرتے کیلئے (اگر کو کی جوٹی) ہے والیڈ کریں۔ ن مجر (BAN) اور تصیاح متحالتہ شرکاء کے دریعے باہ راست الحی شیئر ن مبر (BAN) اور تصیاح متحالتہ شرکاء کے دریعے باہ راست الحی شیئر دری میں شاہراہ بھسل کر آئے گئے دیک الاکا دن کی تصیاح شار اہم کریں برولڈ بھی کے مالک میں مان کے شیئر نے وو دولڈ تک کا تصیاح کی سی رائی گئیت میں میں شیئر برائی شیئر جولڈ در نے گزار ترک ہے کہ وہ اپنی ملیت میں میں برائی شیئر جولڈ در برائی تا اور جوائے میں شیئر جولڈ در زی شیئر زی کے سال ملک	ره اورا یا بوتن شیرتر وا دوی جیس کرسیا یا بوتن صعص کے بارے میں معلومات باتق، پیک اساقہ مینی کی صورت میں ، کم بے کرووا ہے بیش الاقوا می پیک اکا وزیر بی جواب باک B-99، مطابق اسے شیمتر بولڈرز جوجوا تحث شیمتر میں جوائے میشتر بولڈرز جوجوا تحث شیمتر آگر میں طور پرفرا ہم کریں: کی شیمتر دیشتر اور ا	ر بولذرز ، جرکی می کابد سے اپنے ذایع فی ان کرا پی سے اپنے فیر شدہ مناخ ادراً فراغ پی پیشو میشند سے جزا کمٹ 2017 کے سیکٹن 241 کے مطا شیئر رجز ادر ومز المینڈری ڈی کا کیا آئے ۔ بیشر رجز ادر ومز المینڈری ڈی کا کیا گائے میری و میلیور کیا و اس سلسلے شی اس میری میرا اکوادری ڈیل کے مطابق کا مام کا مام کا مام کا مام کا مام کا مام کا کا و کنٹ نجر کا کا و کنٹ نجر کا کا و کنٹ نجر
کی هیم کے سلط میں کوئی رخواری چی آئی ہے، واور کی طرفر دی گل رکھتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب بیضتے ہیں اور خاا صعب یا خوالیہ و کیلئے نقدا وہ شکل کے ہیں۔ در رویا وہ خارج وہ اوار کیکر زرگ صوابد یو بہ بیگا کی اطلاح کو پورا کرنے کیلئے یا فوید فرکو برابر کرنے کیلئے الا کوجو پر بیا تو مجنی کے کا دویا دھی طاورت ویکر تشتیم کیلئے وہتے ہے اور اس کے مطابق الی قرقم عمران شن تشتیم میری کی جی کا مراب کا اطلاق اوا چیکی میں یا اوا چی کے لیے کیا جائے۔ اللہ شد اور تشتیم کے جائے والے کہ ہندا میں طرح کی تر اور افزاد فوا دو کر کے گ ہندا میں طرح کی تر اور افزاد فوا دو کر کے گ ایس کے اس کے اس کے اس کا مطاب کا مطاب کا دور کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی المیں اس کو بھر وہی المیں کی دور اور اس کے مطابق کی اس کے اس کو اس کے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کہ کے جائے گئے کہا کہ اور اس کی در سامندی کیا اختیات ساتھ کیں گئے کے جائے ہے جائے ہے۔ اس کی اختیات کے لئے کہا کہ کے کہا کہ کر کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک	بنیاد پاس طرح مقر کیا گیا ہے جیسا کہ ڈائز کیٹوز کے لیے موز ورا اور منا سب جھیس بھس کے کہ کی ہوا کہ رو آوج دی ہوگی تھی۔  آدیکو را کیٹوز کر گیا گیا ہے جیسا کہ ڈائز کیٹوز کے لیے موز ورا اور منا سب جھیس بھس کے کہ کی ہوا کہ رو آفت اور کیٹوز کے منافع کی سے ایک رو قواست زیر التوا اور تو کی ہے۔  دائز کیٹوز دو آفو کا اور کیٹے گئی کے منافع کا کھی طور پا طاق آبیا ہوا ہی اور اس طرح کی دو خواست زیر التوا اور تو کی اور سالہ یہ ہیں۔  آدیکو دو آفو کا اور کیٹور موں کے آفر ہو پا پھارتی کے بھی میں دو دو اکا وقت یا بالون مناب کے کریٹر کے کہ اور کیٹور کو گوٹور کا اور کیٹور کو گرا کی اور اس کے حقاد ہوں کے آفر ہو پا پھارتی کے کہ بھی زیر دو اکا وقت بیا بالی قب میں اس کے کریٹر کے کہ اور کیٹور کو گرا ہوا کہ کہ اور کیٹور کو گرا ہوا کہ کہ اور کیٹور کو گرا ہوا کہ	برر جغر ادمر وسر لمييند ، ي فرى ي با كارت مي ، واك - لي ، واك - لي ، S.M.C.H.S ، ين شاهراه المين برجغر ادمر وسر لمييند ، ين شاهراه المين برجغر ادمر وسر المييند و من ادا تشكل والمين كي الميندا ، فدكار والوش كه و ديد المين	را البیم مشوره و را جا تا ہے کہ وہ ادارے شیئر زرجشر ارتصرری و کی گئا حاصل کرتے کیلئے (اگر کو کی جوٹی) ہے والیڈ کریں۔ را کی کا یو یڈیڈ کی سرف البیشر کا کے دو لیے براہ راست الحی شیئر نیم را ال (BAN) اور تصیاب متعالقہ شرکاء کے در سیع منسول فی اور کئی را کے دیا تا ہے ہیں، ان کے شیئر اکا وزیل کی تقدیدات فراہم کریں برا کے دالے تمام شیئر جولارز کے گزارش ہے کہ وہ اپنی ملیت میں میں برا کے دالے تمام شیئر جولارز کے گزارش ہے کہ وہ اپنی ملیت میں میں میں نیم کی گئی گئی آئی گئی اور شیئر جولارز کے شیئر جولارز کے گزارش ہے کہ وہ اپنی ملیت میں میں نیم کی گریش شیئر بدالا را در جواعی شیئر جولارز (د) شیئرز دی کیساں ملکہ جیسے انگر بیشر آئی۔ جیسے انگر بیشر آئی۔	ره اورا یا بوتن شیرتر وا دوی جیس کرسیا یا بوتن صعص کے بارے میں معلومات باتق، پیک اساقہ مینی کی صورت میں ، کم بے کرووا ہے بیش الاقوا می پیک اکا وزیر بی جواب باک B-99، مطابق اسے شیمتر بولڈرز جوجوا تحث شیمتر میں جوائے میشتر بولڈرز جوجوا تحث شیمتر آگر میں طور پرفرا ہم کریں: کی شیمتر دیشتر اور ا	ر بولارز ، جری که می بعید سیاسید فایی فی می مرابی سیاسید فیر شده مناخی اوراً فیلی فیر شده میشونی شیش رو مزار از سیاست کی جاتی بیا شیش رو میزار موسور کمیلیز بی فی می باتی با رفی بیرود آقد ریج نیوکی و هشاهت کسی رفی بیرود آقد ندیج نیوکی و هشاهت کسید میش میش رو میزار کودری و فیلی کی مطابق میش کامام فولیلی فی نیمی میش کامام فولیلی فی نیمی کامانی کردی میشود میش کامام فولیلی فی نیمی کامانی کردی میشود میش کامانی کامانی کردی کامی کامی کامی کامی کامی کامی کامی کام
کی هیم کے سلط عن کون رخوادی چی آئی ہے، وائز یکٹر وہ جی گل کر سے جی جی اگر وہ مناسب بھتے ہیں اور فائی سے بھتے ہیں اور فائی سے بھتے ہیں اور فائی سے بھتے ہیں ہے۔ اور کی سے بھتے ہیں اور فائی سے بھتے ہیں اور فائی سے بھتے ہیں ہے۔ اور کی سے بھتے ہیں ہے بھتے ہیں اور فائی ہے بھتے ہیں ہے۔ اور کی سے بھتے ہیں اور کی جائی ہے جیسا کہ بریا ہے کا دوبار میں بالدی کی جائی ہے جیسا کہ بریا ہے کا دوبار میں بھتے ہیں اور کئی میں با اوا بھی میں یا اوا بھی میں یا اوا بھی کی با سے اور اس کے مطابق الحق ہے ہے با نے والے کہ بھی اس کے لئے بھی ہے کے لیا جائے اللہ بھی اور کئی میں یا اوا بھی میں یا اور گئی میں یا اوا بھی میں یا اور گئی میں یا اوا بھی میں یا اوا بھی میں یا اور گئی میں یا اوا بھی میں یا اور اس کے مطابق کی ایس کی اور کی ایس کا دوبار کے اور اس کے مطابق کی ایس کی میں کہ بھی کے بھی ہے ہا ہے کہ سال میں کہ میں کہ	بناد پاس طرح مقر کیا گیا ہے جیسا کہ ذائر کیٹوز کے لیے موز ور اور منا سب جمیس شعص کے کی کا ادار دو آفاز دو آفاز  ار میکوز کر کی آبی ڈیا پیڈی ک سفار آبر نے سے تل کھنی کے منافع میں سے ایک رقوع کو اگلہ کر سکتے ہیں جوہ منا سب جمیس الطور مقد کیا جاری کی اور قواست زیر التوا ، برد تی ہے الیک مواجد یہ مقدر کیا جاری کا مواجد یہ الیک مواجد یہ الیک مواجد یہ الیک روفواست زیر التوا ، برد تی ہے الیک مواجد یہ الیک روفواست زیر التوا ، برد تی ہے الیک مواجد یہ اور کی روفواست زیر التوا ، برد تی ہے الیک مواجد یہ اور کی روفواست نیر التوا ، برد تی ہے الیک مواجد یہ اور کی اور کی اور کی اور مواجد یہ اور کی اور مواجد یہ اور کی اور مواجد یہ اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا مواجد یہ اور کی کی اور کی اور کی کی کی اور کی کی کی کی کی کی کی اور کی	برر برخر ادر مور کمیند ، ی فی ی با کان ، 99 - لی ، با ک - لی ، کا سال ، که ، شن شاہراه ، مین شاہراه ، اور در لیے ، اور در کے بار در کرده ویک اکاؤٹ میں بادائی کی جائے گی ۔ لبدا ، فی کار داؤو کی اور لیے ، اسلم میں اب وی کر کمی فروندگی میں ماد میشتر مجر اور اسر ری فی می - کسی کی پریشانی ہے ۔ کسی میں اب وی کسی برائد اور برائی کی اب است کا اب و ایک کسی است کا اب و ایک کان بات کی اب و کسی است کی اب وی کسی است کی اب وی کسی است کی اب وی کسی کان اب کی حقیدت بروز کی تعدال سے برد شیر ری کان میں است کی انسان کی میں میں کان کسی کی میں کان میں کان کسی کی میں کان میں کان کسی کی کان اب کی کان کسی کان کسی کر انسان کی کان کسی کان کسی کان کسی کر کسی کان کسی کر میں کان کی کسی کان کسی	ره البیمی مشوره و دیا جا اسب که وه دار سیشتر زرجشر ارتیسرزی و کی گی آن حاصل کرتے کیلئے (اگر کو کی جوفی) سے دابلا کریں۔ را کی اور پیڈ فرک سرف الیکٹرا کیل موفو کے در لیے براه راست الحی شیئر نیم برراہ تیسل اور آن کی دیک اکا ان کی آنسیا است فراہم کریں بروازی کے ساک میں ادان سیشتر زم ود دوار ان کی آنسیا سے فراہم کریں بروازی کی کے باک میں ادان سیشتر زم ود دوار ان کی کلیت میں برسیل شیئر برائی شیئر جوالد در سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کلیت میں میں نام اوری ایس آئی گیر اس شیئر برواز در ایس کی تاسب (شیئرزی) نیم کی مرکبل شیئر براؤ در اور جواعی شیئر جوار ان شیئرزی کی کیاس ملکہ شیئر جوار فرائی شیئر براؤ در اور جواعی شیئر جوار فرائی کی تاسب (شیئرزی) شیئر جوار فرائی شیئر براؤ در اور جواعی شیئر جوار فرائی کی تاسب (شیئرزی) شیئر جوار فرائی شیئر براؤ در اور جواعی شیئر جوار فرائی کی تاسب (شیئرزی) کیا تاسب (شیئرزی) جیف آئی خوال	ید اورا یا بونس شیرز دا دوی جیس کر سکا یا بونس صعص کے بارے میں معلومات مائن، پیلے کے بیش الاقوا می پیک الاقوا بیک دوا ہے بیش الاقوا می پیک الاقوا بیک دوا ہے بیش الاقوا میں بیٹ الاقوا میں بیٹ الاقوا میں بیٹ شیرز مطابق الیے شیئر بولڈرز جرجوا سے شیئر میں جوائے شیئر بولڈرز جرجا سے شیئر میں جوائے شیئر بولڈرز کے سماتی شیئرز کی مطابق کی صورت میں ہے جھا جائے میر پر دابلہ کر کئے ہیں:	ر بولارز ، جوکی می بود سے اپنے ذایے یا ولا پیر فل میں اپنے تیر شدہ مناخی اور آر بڑا کیک 2017 کیکٹٹن 242 کے مط شیر ر میز اور رومز آمیازی ڈی کی کہا گی بیر ر میز اور رومز آمیازی ڈی کی کہا گی بر لی بود ڈ آ ف ریو نیو کی وضاحت کے مطابق میٹر ر میز ار کو درج ذار کی شرا میر والور ای شکل ایل میٹ میٹر اور مورز (میا کیٹھ کے کے موصول کی اس میٹ کے در



#### THROUGH PUCARS & COURIER

October 5, 2023

The Deputy General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi- 74000

#### SUBJECT: NOTICE OF BOOK CLOSURE

Dear Sir,

This is to inform you that the Share Transfer Book of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited ("Company") shall remain closed from October 19, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive) in connection with the Company's 60<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on Thursday, October 26, 2023.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

**Hussain Kuli Khan** Chief Executive Officer

Hum Kl. Kl



(Formerly known as The General Tyre & Rubber Company of Pakistan Limited)

